


No.	Contents	Page No.	No.	Contents	Page No.
1	THE LAST SERMON OF THE RASOOL HAZRAT MUHAMMAD [عَلَى اللَّهِ وَعَلَى آلهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ]	5	9	KAGHAN VALLEY	106
2	Our Villages	28	★	Review 2	117
3	EID-UL-AZHA	42	10	QUAID-I-AZAM	120
4	RAIN IN SUMMER	53	11	THE ROOSTER AND THE FOX	135
★	Review 1	59	12	DREAM A WORLD	150
5	TRAFFIC SENSE	61	13	INVENTIONS AND DISCOVERIES	158
6	POLLUTION	74	14	A TERRIBLE EARTHQUAKE	174
7	A DENGUE PATIENT VISITS A DOCTOR	88	★	Review 3	190
8	A NATION'S STRENGTH	99		GRAMMAR	194

Educational Calendar ENGLISH Grade - 7

March/April	May/June	August/Sept.	October
<p>Lesson No. 1 to 2 The Last Sermon of the Rasool Hazrat Muhammad (عَلَى اللَّهِ وَعَلَى آلهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) To Our Villages TextBook Page: 1-27</p> <p>4 kinds of Sentence Common & Proper Noun Pronoun (Subjective, Possessive, Objective) For Sick Leave Parts of Letters, Body of Letter The Thirsty Crow Allama Iqbal</p>	<p>Lesson No. 3 to 4 Eid-ul-Azha To Rain In Summer TextBook Page: 28-52</p> <p>Three Forms of Verb Tenses: Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect ●●●●● To Father for some money ●●●●● My Self</p>	<p>Lesson No. 5 to 6 Traffic Sense To Pollution TextBook Page: 53-79</p> <p>Three Forms of Verb Tenses: Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect For Urgent piece of work ●●●●● The Greedy Dog A House on Fire</p>	<p>Lesson No. 7 to 8 A Dengue Patient Visits a Doctor To A Nation's Strength TextBook Page: 80-97</p> <p>Three Degrees of Adjective Tenses: Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect ●●●●● To younger brother to take interest in studies ●●●●● My Best Friend</p>
November	December	January	February March
<p>Lesson No. 9 to 10 Kaghan Valley To Quaid-I-Azam TextBook Page: 98-125</p> <p>Use of Question Adverbs (What, Which, When, Where, Why, Who, Whose, Whom, How) Tenses: Past (Indefinite, Continuous, Perfect) For remission of Fine The Fox and Grapes An Accident</p>	<p>Lesson No. 11 to 12 The Rooster and the Fox To Dream a World TextBook Page: 126-149</p> <p>Tenses: Future Indefinite Future Continuous, Future Perfect The Foolish Stag Morning Walk</p>	<p>Lesson No. 13 to 14 Inventions and Discoveries To A Terrible Earthquake TextBook Page: 150-179</p> <p>Tenses: Future Indefinite Future Continuous, Future Perfect To attend a Marriage party To Friend for loan of his camera My Best Teacher</p>	<p>Revision</p> <p>Examination</p>

Lesson 1: The Last Sermon of the Rasool Hazrat

Muhammad ﷺ | رسول پاک حضرت محمد ﷺ | کا آخری خطبہ مبارک



پڑھنے سے پہلے کی مشق: Pre-reading:

☆ What is a sermon? خطبہ کیا ہے؟

Ans: Sermon is a moral lecture for public.

جواب: عوام کے لیے اخلاقی تقریر خطبہ کہلاتی ہے۔

☆ How can we save ourselves from evils? ہم اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟

Ans: If we follow the right path, we can save ourselves from evils.

جواب: اگر ہم سیدھا راستہ اختیار کریں تو برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔

☆ How can we be blessed in the life hereafter? ہم پر آخرت میں کیسے رحم ہو سکتا ہے؟

Ans: If we do good deeds and remain on right path, we can be blessed in the life hereafter.

جواب: اگر ہم اچھے اعمال کریں اور سیدھے راستے پر رہے تو آخرت میں ہم پر رحم ہو سکتا ہے۔

Translation in Urdu

اردو ترجمہ

Islam	covers	all	the aspects	of	human	life
اسلام	کوریج	آل	دی ایسپیکٹس	آف	ہیومن	لائف
اسلام	احاطہ کرتا ہے	تمام	پہلوؤں کا	کے	انسانی	زندگی

English	تلفظ	اردو
Islam covers all the aspects of human life.	اسلام کوریج آل دی ایسپیکٹس آف ہیومن لائف۔	اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔

It	is	not	only	a	religion	but	also	a	complete	code	of	life
اٹ	ایز	ناٹ	اونلی	ای	ریلیجن	بٹ	آلسو	ای	کمپلیٹ	کوڈ	آف	لائف
یہ	ہے	نہیں	صرف	ایک	مذہب	بلکہ	بھی	ایک	مکمل	ضابطہ	کا	حیات

English	تلفظ	اردو
It is not only a religion but also a complete code of life.	اٹ ایز ناٹ اونلی آر لیجن بٹ آلسو کمپلیٹ کوڈ آف لائف	یہ صرف ایک مذہب نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے

Hazrat	Muhammad	is	the last	Rasool	of	Allah	Almighty
حضرت	محمد ﷺ	از	دی لاسٹ	رسول	آف	اللہ	آل مائٹی
حضرت	محمد ﷺ	ہیں	آخری	رسول	کے	اللہ	اللہ تعالیٰ

English	تلفظ	اردو
Hazrat Muhammad [صلی اللہ علیہ وسلم] is the last Rasool of Allah Almighty.	حضرت محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] ازدی لاسٹ رسول آف اللہ آل مائی	حضرت محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔

At	the	occasion	of	performing	Hajj,	he	delivered
ایٹ	دی	اوکیشن	آف	پرفارمانگ	حج	ہی	ڈلورڈ
		موقعہ	کو	اداگی	حج	آپ	ارشاد فرمایا

his	last	sermon	on	9th	Zil-Hajjah,	10 A.H.
ہز	لاسٹ	سرمین	آن	نائکھ	ذی الحج	10 اے۔ ایچ۔
اپنا	آخری	خطبہ	پ	9	ذی الحج	10 ہجری

English	تلفظ	اردو
At the occasion of performing Hajj, he [صلی اللہ علیہ وسلم] delivered his last sermon on 9th Zil-Hajjah, 10 A.H.	ایٹ دی اوکیشن آف پرفارمانگ حج، ہی [صلی اللہ علیہ وسلم] ڈلورڈ ہز لاسٹ سرمین آن نائکھ ذی الحج 10 اے۔ ایچ۔	9 ذی الحج 10 ہجری کوچ کے موقعہ پر آپ [صلی اللہ علیہ وسلم] نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔

He	addressed	more	than	one	hundred	thousand	companions	and
ہی	ایڈریسڈ	مور	دین	ون	ہنڈرڈ	تھاؤزینڈ	کم پے ھیئر	اینڈ
آپ	خطاب کیا	زائد	سے	ایک	سو	ہزار	ساتھیوں	اور

advised	them	to	devote	their	lives	for	the service	of	Islam
ایڈوائسڈ	دیم	ٹو	ڈیوٹ	دیر	لائویز	فار	دی سروں	آف	اسلام
صحیح کی	ان کو	کہ	وقف کریں	انھیں	زندگیاں	کے لئے	خدمت	کرویں	اسلام

so that	they	might	gain	the glory	of	Allah	Almighty
سوڈیٹ	دے	مائٹ	گین	دی گلوری	آف	اللہ	آل مائی
تاکہ	تھیں	سکے	حاصل ہو	خوشنودی	کی	اللہ	تعالیٰ

English	تلفظ	اردو
He [صلی اللہ علیہ وسلم] addressed more than one hundred thousand companions and advised them to devote their lives for the service of Islam, so that they might gain the glory of Allah Almighty.	ہی [صلی اللہ علیہ وسلم] ایڈریسڈ مور دین ون ہنڈرڈ تھاؤزینڈ کم پے ھیئر اینڈ ایڈوائسڈ دیم ٹو ڈیوٹ دیر لائیوز فار دی سروں آف اسلام، سوڈیٹ دے مائٹ گین دی گلوری آف اللہ آل مائی	آپ [صلی اللہ علیہ وسلم] نے ایک لاکھ سے زائد اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا اور انھیں صحیح فرمائی کہ اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت کے لئے وقف کرویں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔

He	taught	them	how	to	lead	their	lives	according	to	the true	spirit	of	Islam
ہی	ٹاٹ	دیم	ہاؤ	ٹو	لیڈ	دیر	لائویز	اکارڈنگ	ٹو	دی ٹرو	سپیرٹ	آف	اسلام
آپ	سکھایا	کہ	کیسے	کے	گزاریں	انھیں	زندگیاں	مطابق	کے	صحیح	معنوں	کے	اسلام

English	تلفظ	اردو
He [صلی اللہ علیہ وسلم] taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam.	ہی [صلی اللہ علیہ وسلم] ٹاٹ دیم ہاؤ ٹو لیڈ دیر لائیوز اکارڈنگ ٹو دی ٹرو سپیرٹ آف اسلام	آپ [صلی اللہ علیہ وسلم] نے انھیں سکھایا کہ صحیح معنوں میں کیسے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔

In	the sermon,	He [صلی اللہ علیہ وسلم]	gave	such	guidelines	to
ان	دی سزمن	ہی [صلی اللہ علیہ وسلم]	گیو	سچ	گائیڈ لائنیز	ٹو
میں	خطبہ	آپ [صلی اللہ علیہ وسلم]	فرمائی	ایسی	راہنمائی	نے

the Muslims	and	the entire	humanity	that	aimed	to	improve
دی مسلمان	اینڈ	دی انٹائر	ہیومنٹی	دیت	ایمڈ	ٹو	ایمر وو
مسلمان	اور	تمام	انسانیت	کہ	ادارہ		بہتری

their	social,	moral,	personal	and	political	life
دیر	سوشل	مورل	پرسنل	اینڈ	پولیٹیکل	لائف
اپنی	سماجی	اخلاقی	ذاتی	اور	سیاسی	زندگی

English	تلفظ	اردو
In the sermon, He [صلی اللہ علیہ وسلم] gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity that aimed to improve their social, moral, personal and political life.	ان دی سزمن ہی [صلی اللہ علیہ وسلم] گائیڈ لائنیز نو دی مسلمان اینڈ دی انٹائر ہیومنٹی دیت ایمڈ ٹو ایمر وو دیر سوشل، مورل پرسنل اینڈ پولیٹیکل لائف	اس خطبہ میں آپ [صلی اللہ علیہ وسلم] نے ایسی رہنمائی فرمائی جس سے تمام انسانیت کی سماجی، اخلاقی، ذاتی اور سیاسی زندگی بہتر کی جاسکتی ہے۔

Here	is	the extract	from	the sermon
ہیر	از	دی ایکسٹریکٹ	فرام	دی سزمن
یہ	ہے	کچھ حصہ	سے	خطبہ

English	تلفظ	اردو
Here is the extract from the sermon:	ہیر از دی ایکسٹریکٹ فرام دی سزمن	خطبہ میں سے کچھ حصہ یہ ہے۔

While Reading:

Q. How many companions were present in the last sermon? **آخری خطبہ میں کتنے ساتھی احباب موجود تھے؟**

Ans: More than one hundred thousand companions were present in the last sermon. **آخری خطبہ مبارک میں ایک لاکھ سے زائد ساتھی موجود تھے۔**

All	praise	is	due	to	Allah,	so	we	praise	Him,	and
آل	پریز	از	ڈیو	ٹو	اللہ	سو	دی	پریز	ہم	اینڈ
تمام	تعریفیں	ہیں	لئے	کے	اللہ	ہیں	ہمیں	تعریف	اس کی	اور

seek	His	pardon	and	we	turn	to	Him
سیک	ہز	پارڈن	اینڈ	ووئی	ٹرن	ٹو	ہم
مانگنا	اس کا	رحم	اور	ہمیں	لوٹ کر جانا	کی طرف	اس

English	تلفظ	اردو
"All praise is due to Allah, so we praise Him, and seek His pardon and we turn to Him.	آل پریز از ڈیو ٹو اللہ سو دی ہم اینڈ سیک ہز پارڈن اینڈ ووئی ٹرن ٹو ہم۔	تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ پس ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اس سے رحم مانگنا چاہیے اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

We	seek	refuge	with	Allah	from	the evils	of	ourselves
ہم	سیک	ری فوج	”	اللہ	فرام	دی ایٹھ	آف	اور سلیز
	مانگتے	پناہ	سے	اللہ	سے	برائیوں	کی	اپنی

and	from	the evil	consequences	of	our	deeds
ایڈ	فرام	دی ایٹھ	کوئی کوئی سز	آف	آر	ایڈز
اور	سے	جو برے حالات	انجام	کے	ہمارے	اعمال

English	تلفظ	اردو
We seek refuge with Allah from the evils of ourselves and from the evil consequences of our deeds	ہم سیک ری فوج و اللہ فرام دی ایٹھ آف اور سلیز زائید فرام دی ایٹھ کوئی کوئی سز آف اور ڈیڈز۔	ہم اپنی برائیوں کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور برے اعمال سے جو ہمارے اعمال کے ہیں ان کے انجام سے۔

Whom	Allah	guides	aright	there	is	none	to	lead	him	astray	and
ہوم	اللہ	گائڈز	ارائٹ	دیر	از	نن	ٹو	لیڈ	ہم	ایسٹری	ایڈ
	اللہ	راستہ	سیدھا	جسے	ہے	کو	سکا	دکھائے	اُسے	بھٹکا	اور

there	is	none	to	guide	him	aright	whom	Allah	leads	astray
دیر	از	نن	ٹو	گائڈ	ہم	ارائٹ	ہوم	اللہ	لیڈز	ایسٹری
جسے	ہے	کوئی	سکا	راستہ	اُسے	سیدھا	دکھا	اللہ	دے	بھٹکا

English	تلفظ	اردو
Whom Allah guides aright there is none to lead him astray; and there is none to guide him aright whom Allah leads astray.	ہوم اللہ گائڈز ارائٹ دیر از نن ٹو لیڈ ہم ایسٹری ایڈ دیر از نن ٹو گائڈ ہم ارائٹ و ہم اللہ لیڈز ایسٹری	جسے اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اُسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اور جسے اللہ بھٹکا دے اُسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔

I	bear	witness	that	there	is	no	God	but
آئی	بیر	وٹ نیس	دیت	دیر	از	نو	گاڈ	بٹ
میں	دیتا ہوں	گواہی	کہ	کوئی	ہے	نہیں	معبود	لیکن

Allah,	the One,	having	no	partner	with	Him
اللہ	دی ون	ہیوگ	نو	پارٹنر	وڈ	ہم
اللہ	واحد	دکھتا	نہیں	شریک	ساتھ	اپنے

English	تلفظ	اردو
I bear witness that there is no God but Allah, the One, having no partner with Him.	آئی بیر وٹ نیس دیت دیر از نو گاڈ بٹ اللہ ون ہیوگ نو پارٹنر وڈ ہم۔	میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

He	is	the sovereignty	and	to	Him	is	due	all	praise
ہی	از	دی سوورینٹی	ایڈ	ٹو	ہم	از	ڈیو	آل	پرائز
وہ	ہے	مختار گل	اور	کی طرف	اسی	ہیں	کے لئے	تمام	تقریبن

English	تلفظ	اردو
He is the sovereignty and to Him is due all praise.	ہی از دی سوورینٹی ایڈ ٹو ہم از ڈیو آل پرائز	وہ مختار گل ہے تمام تقریبن اسی کے لئے ہیں

He	grants	life	and	causes	death	and	is	Powerful
ہی	گرائش	لائف	اینڈ	کازز	ڈتھ	اینڈ	از	پاورفل
وہ	عطا کرتا	زندگی	وہ	اسباب	موت	اور	ہے	قادر

over	everything.	There	is	no	God	but	Allah,	the One;
اُوور	ایوری تھنگ	دیر	از	نو	گاڈ	بٹ	اللہ	دی ون
پر	ہر چیز	کوئی	ہے	نہیں	معبود	لیکن	اللہ	واحد

He	fulfilled	His	promise	and	granted	victory	to	His bonds man,
ہی	فل فیلڈ	ہز	پرائس	اینڈ	گرائڈ	وکٹری	ٹو	ہز بونڈز مین
وہ	پورا کرتا	اپنا	وعدہ	اور	عطا کرتا	فتح		اپنے بندہ/غلام

and	He	alone	routed	the confederate	(of	the enemies	of	Islam)
اینڈ	ہی	الون	روئڈ	دی کنفیڈریٹس	آف	دی اینی میز	آف	اسلام
اور	وہ	اکیلا	شکست فاش	تحمہ	کو	دشمنوں	کے	اسلام

English	تلفظ	اردو
He grants life and causes death and is Powerful over everything. There is no God but Allah, the One; He fulfilled His promise and granted victory to His bondsman, and He alone routed the confederates (of the enemies of Islam).	ہی گرائش لائف اینڈ کازز ڈتھ اینڈ از پاورفل اوور ایوری تھنگ دی کنفیڈریٹس آف دی اینی میز آف اسلام۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے اور اپنے بندے کو اکیلے ہی اسلام کے تحمہ دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لئے فتح عطا کرتا ہے۔	

O'	People!	Listen	to	my	words,	for	I	do	not	know	whether
او	پیپل	لسن	ٹو	مائی	ورڈز	فار	آئی	ڈو	ناٹ	ناؤ	ویڈر
اے	لوگوں	بات سنو		میرے	الفاظ	کہ	میں		نہیں	جانتا	آیا

we	shall	ever	meet	again	and	perform	Hajj	after	this	year.
ووئی	شیل	ایور	میٹ	اگین	اینڈ	پرفارم	حج	آفٹر	ڈس	ایئر
ہم	گے	کبھی	ملیں	دوبارہ	اور	ادا کرکیں	حج	کے بعد	اس	سال

English	تلفظ	اردو
O' People! Listen to my words, for I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year.	او پیپل! لسن ٹو مائی ورڈز فار آئی ڈو ناٹ ناؤ ویڈر ووئی شیل ایور میٹ اگین اینڈ پرفارم حج آفٹر ڈس ایئر	اے لوگوں میری بات سنو میں نہیں جانتا کہ آیا ہم دوبارہ ملیں گے یا نہیں اور اس سال کے بعد حج ادا کرکیں گے یا نہیں۔

O'	Ye	people!	Allah	says,	"O"	people	we	created	you
او	یے	پیپل	اللہ	سیز	او	پیپل	ووئی	کری ایڈ	یو
او	اے	لوگو!	اللہ	فرماتا ہے	اے	لوگو!	ہم نے	پیدا کیا	تمہیں

from	one	male	and	one	female	and	made	you	into
فرام	ون	میل	اینڈ	ون	فی میل	اینڈ	میڈ	یو	ان ٹو
سے	ایک	مرد	اور	ایک	عورت	اور	بنائے	تمہارے	میں

tribes	and	nations,	so	as	to	be	known	to	one	another."
ٹرائبر	ایڈ	نیشنز	سو	ایز	ٹو	بی	ٹاؤن	ٹو	ون	این اڈر
قبیلے	اور	قومیں	تا	کہ	کو	سکو	جان	کو	ایک	دوسرے

English	تلفظ	اردو
O' Ye people! Allah says, "O' people we created you from one male and one female and made you into tribes and nations, so as to be known to one another."	او۔ اے پی پل اللہ سیز او پی پل ووٹی کری ایڈ یو فرام ون میل اینڈ ون فی میل اینڈ میڈ یو ان ٹو ٹرائبرز نیشنز سو ایز ٹو بی ٹاؤن ٹو ون این اڈر	اے لوگو! اللہ فرماتا ہے اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور قومیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو

Verily	in	the sight	of	Allah,	the most	honoured
دیرری لی	ان	دی سائٹ	آف	اللہ	دی موسٹ	آنرڈ
یقیناً	میں	نظر	کی	اللہ	سب سے زیادہ	محترم

amongst	you	is	the one	who	is	most	God-fearing
انگسٹ	یو	از	دی ون	ہو	از	موسٹ	گاڈ فیئرنگ
کرنے والا	تم	ہے	ایک	جو	ہے	زیادہ	خدا خونی

English	تلفظ	اردو
Verily in the sight of Allah, the most honoured amongst you is the one who is most God-fearing.	دیرری لی ان دی سائٹ آف اللہ دی موسٹ آنرڈ انگسٹ یو از دی ون واز موسٹ گاڈ فیئرنگ	یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ خدا خونی کرنے والا ہے۔

An	Arab	has	no	superiority	over	a	non-Arab	nor	does
این	عرب	ہیز	نو	سوپر آڈورٹی	اوور	آ	ٹان عرب	نار	ڈز
ایک	عربی	رکھتا	نہیں	برتری	پر	ایک	عجمی	نہ	ہی

a	non-Arab	has	any	superiority	over	an	Arab;	also	a	white
آ	ٹان عرب	ہیز	اینی	سوپر آڈورٹی	اوور	این	عرب	آل سو	آ	وائٹ
ایک	عجمی	رکھتا	کوئی	برتری	پر	ایک	عربی	بھی	ایک	گورے

has	no	superiority	over	a	black	nor	a	black	has	any
ہیز	نو	سوپر آڈورٹی	اوور	آ	بلیک	نار	آ	بلیک	ہیز	اینی
رکھتا	نہی	برتری	پر	ایک	کالے	نہی	ایک	کالا	رکھتا	کسی

superiority	over	a	white-except	by	piety	and	good	action.
سوپر آڈورٹی	اوور	آ	وائٹ ایکسپٹ	بائے	پائے ٹی	ایڈ	گڈ	ایکشن
برتری	پر	ایک	سوائے گورے	کے	پر ہیز گاری	اور	اچھے	اعمال

English	تلفظ	اردو
An Arab has no superiority over a non-Arab nor does a non-Arab has any superiority over an Arab; also a white has no superiority over a black nor a black has any superiority over a white-except by piety and good action.	این عرب ہیز نو سوپر آڈورٹی اوور آ ٹان عرب نار ڈز آ ٹان عرب ہیز اینی سوپر آڈورٹی اوور آ ایک نار بلیک نار بلیک ہیز اینی سوپر آڈورٹی اوور عرب۔ آل سو آ وائٹ ہیز نو سوپر آڈورٹی اوور آ وائٹ ایکسپٹ ہائے ٹی اینڈ گڈ ایکشن۔	ایک عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں اور نہ ہی ایک عجمی کو ایک عربی پر برتری حاصل ہے اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر برتری حاصل ہے اور نہ ہی کالے کو کسی گورے پر برتری حاصل ہے سوائے پر ہیز گاری اور اچھے اعمال کے

Learn	that	every	Muslim	is	a	brother	to	every	Muslim
لرن	دیت	ایوری	مسلم	از	آ	برادر	نو	ایوری	مسلم
یاد رکھو	کہ	ہر	مسلمان	ہے	ایک	بھائی	کا	دوسرے	مسلمان

and	that	the Muslims	constitute	one	brotherhood
اینڈ	دیت	دی مسلمان	کانٹینی ٹیوٹ	ون	برادر پنہ
اور	کہ	مسلمان	تھکیل کرتے	ایک	بھائی چارہ

English
Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood.

تلفظ
لرن دیت ایوری مسلم از آ برادر نو ایوری مسلم اینڈ دیت دی مسلمان کانٹینی ٹیوٹ ون برادر پنہ

اردو
یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان مل کر ایک بھائی چارہ تھکیل دیتے ہیں۔

Nothing	shall	be	legitimate	to	a	Muslim	which	belongs
تھنگ	شیل	بی	لیجی ٹی میٹ	نو	آ	مسلم	وج	بی لائنجز
کوئی نہیں	گا	ہو	حق دار	کا	ایک	مسلمان	کسی	دوسرے

to	a	fellow	Muslim	unless	it	was	given	freely	and	willingly
نو	آ	فیلو	مسلم	ان لیس	اٹ	واز	گون	فرلی	اینڈ	وننگھی
کی	ایک	دوست	مسلمان	جب تک	وہ	جائے	دے	مرضی	اور	کوئی چیز

English
Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly

تلفظ
تھنگ شیل بی لیجی ٹی میٹ نو آ مسلم وج بی لائنجز نو آ فیلو مسلم ان لیس اٹ واز گون فرلی اینڈ وننگھی

اردو
کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی چیز کا حق دار نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ دے دے۔

Do	not	therefore	do	injustice	to	yours ives
ڈو	ناٹ	دیر فور	ڈو	ان جسٹس	نو	یورس ایف
کرو	نہ	اس لئے	کرو	نا انصافی		اپنے ساتھ

English
Do not therefore do injustice to yourselves.

تلفظ
ڈو ناٹ دیر فور ڈو ان جسٹس نو یورس ایف

اردو
اس لئے اپنے ساتھ نا انصافی نہ کرو

While Reading:

Q: What is the criteria of superiority in Islam?
Ans: Piety and good actions are the criteria of superiority in Islam.

پڑھنے کے دوران:
اسلام میں برتری کی بنیاد کیا ہے؟
جواب: اسلام میں اچھے اعمال اور پرہیزگاری برتری کی بنیاد ہے۔

All	mankind	is	the progeny	of	Adam	and
آل	مین کا نڈ	از	دی پروجنی	آف	آدم	اینڈ
تمام	انسان	ہیں	اولاد	کی	آدم	اور

Adam	was	created	out	of	clay
آدم	واز	کری ایٹڈ	آؤٹ	آف	کلے
آدم	تھے	پیدا	کئے گئے	سے	مٹی

English
All mankind is the progeny of Adam and Adam was created out of clay.

تلفظ
آل مین کا نڈ از دی پروجنی آف آدم اینڈ آدم واز کری ایٹڈ آؤٹ آف کلے

اردو
تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا

GHAZALI A-ONE GUIDE (URDU MEDIUM)

Behold;	every	claim	of	privilege	whether	that	of	blood	
بی ہولڈ	ایوری	کھیم	آف	پریویج	ویدر	دیت	آف	بلڈ	
سنو:	ہر	دھوئی	کا	حفاظت	چاہے	اس	کے	خون	
or	property.	is	under	my	heels	except	that	of	the custody
آر	پراپرٹی	از	انڈر	مائی	ہیلو	ایکس سپیٹ	دیت	آف	دی کسٹڈی
یا	جائیداد	ہے	نیچے	میرے	پاؤں	سوائے	اس	کے	حق
of	the Ka'bah	and	supplying	of	water	to	the pilgrims		
آف	دی کعبہ	اینڈ	سپلائنگ	آف	واٹر	تو	دی پیل گریمز		
کا	خانہ کعبہ	اور	فراہمی	کی	پانی	کی	زائرین		
O'	people	of	Quraish,	don't	appear	(on	the Day		
او	پپل	آف	قریش	ڈونٹ	ایپیر	آن)	دی ڈے		
اے	لوگوں	کے	قریش	مت	ظاہر ہونا	پہ	دن		
of	Judgement)	with	the burden	of	this	world	around		
آف	(جج منٹ)	وڈ	دی برڈن	آف	ڈن	ورلڈ	ارائونڈ		
کے	قیامت	ساتھ	بوجھ	کے	اس	دنیا	گرد		
your	necks,	whereas	other	people	may	appear	(before		
یور	نیکس	وہرایز	اور	پپل	ے	ایپیر	بی فور		
اپنی	گردنوں	جبکہ	دوسرے	لوگ	ہوسکتا ہے	حاضر	ہمانے		
the Lord)	with	the rewards	of	the hereafter					
(دی لارڈ)	وڈ	دی ری وارڈز	آف	دی ہیئر آفٹر					
اللہ کے ہاں	کے ساتھ	انعام	کے	آخرت					

English	تلفظ	اردو
Behold; every claim of privilege whether that of blood or property, is under my heels except that of the custody of the Ka'bah and supplying of water to the pilgrims. O' people of Quraish, don't appear (on the Day of Judgement) with the burden of this world around your necks, whereas other people may appear (before the Lord) with the rewards of the hereafter.	بی ہولڈ ایوری کلیم آف پریویج ویدر دیت آف بلڈ آر پراپرٹی از انڈر مائی ہیلز ایکس سپیٹ آف دی کسٹڈی آف دی کعبہ اینڈ سپلائنگ آف واٹر تو دی پیل گریمز او پیپل آف قریش ڈونٹ ایپیر (آن دی ڈے آف جج منٹ) وڈ دی برڈن آف ڈن ورلڈ اروائونڈ یور نیکس وہرایز اور پیپل سے ایپیر بی فور دی لارڈ) وڈ دی ری وارڈز آف دی ہیئر آفٹر	سنو: خون اور جائیداد کے دعوے کا حق میرے پاؤں کے نیچے ہے سوائے خانہ کعبہ کی حفاظت اور زائرین کو پانی کی فراہمی کے۔ اے قریش کے لوگوں قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی گردنوں پر دنیا کے بوجھ کے ساتھ حاضر نہ ہونا جبکہ دوسرے لوگ اللہ کے ہاں آخرت کے انعام کے ساتھ پیش ہوں۔

In	that	case	I	shall	avail	you	naught	against	Allah
ان	دیت	کیس	آئی	شیل	ایویل	یو	ناٹ	آگینٹ	اللہ
میں	اس	مسلہ	میں	گا	بنوں	تمہارے	بجٹش	کے سامنے	خدا

English	تلفظ	اردو
In that case I shall avail you naught against Allah.	ان دیت کیس آئی شیل ایویل یو ناٹ آگینٹ اللہ	اس مسئلہ میں خدا کے سامنے میں تمہارے لئے کچھ نہ کر پاؤں گا۔

Behold!	All	practices	of	the days	of
بی ہولڈ	آل	پریکٹس	آف	دی ڈیز	آف
دیکھو	تمام	کام اور اعمال	کے	کے دنوں	کے
ignorance	are	now	under	my	feet
انورنس	آر	ناؤ	انڈر	مائی	فیت
جہالت	ہیں	اب	نیچے	میرے	پاؤں

English	تلفظ	اردو
Behold! All practices of the days of ignorance are now under my feet.	بی ہولڈ! پریکٹس آف دی ڈیز آف انورنس آرنائو انڈر مائی فیت	دیکھو! جہالت کے دنوں کے کام اور اعمال میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔

The blood	revenge	of	the days	of	ignorance	are	remitted
دی بلڈ	ری ریجنز	آف	دی ڈیز	آف	انورنس	آر	ری میٹڈ
خون	بدلہ	کا	دنوں	کے	جہالت	ہے	ختم کیا جاتا

English	تلفظ	اردو
The blood revenge of the days of ignorance are remitted.	دی بلڈ ری ریجنز آف دی ڈیز آف انورنس آر ری میٹڈ	جہالت کے دنوں کے خون کے بدلے ختم کئے جاتے ہیں

The first	claim	on	blood	I	abolish	is	that	of
دی فٹ	کلیم	آن	بلڈ	آئی	ایبولش	ایز	دیت	آف
سب سے پہلا	دعوئی ابدلہ	پر	خون	میں	معاذ کرنا۔	ہے	جو کہ	کے

Ibn Rabiah bin Harith	who	was	nursed	in	the tribe	of
ابن ربیعہ بن حارث	ہو	واز	نرسڈ	ان	دی ٹرایب	آف
ابن ربیعہ بن حارث	جن	تھے	تیار داری	نے	قبیلہ	کی

Sa'ad	and	whom	the Hudhayls	killed
سعد	اینڈ	ہوم	دی ہڈھیلز	کلڈ
سعد	اور	جسے	ہڈیل نے	قتل کیا

English	تلفظ	اردو
The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabiah bin Harith who was nursed in the tribe of Sa'ad and whom the Hudhayls killed.	دی فٹ کلیم آن بلڈ آئی ایبولش ایڈ دیت آف ابن ربیعہ بن حارث ہوواز نرسڈ ان دی ٹرایب آف سعد اینڈ ہوم دی ہڈھیلز کلڈ	سب سے پہلا خون کے بدلہ کا دعویٰ جو کہ ابن ربیعہ بن حارث جن کی دیکھ بھال سعد قبیلہ نے کی اور جسے ہڈیل نے قتل کیا۔ میں معاف کرتا ہوں

All	interest	and	usurious	dues	accruing	from
آل	انٹرسٹ	اینڈ	یوریرس	ڈیوز	ایکوریگ	فرام
سارے	منافع	اور	سود	واجبات	ختم	سے

the times	of	ignorance	stand	wiped out.
دی ٹائمز	آف	انورنس	سٹینڈ	واپڈ آؤٹ
دنوں	کے	جہالت	چلے آ رہے	منائے جاتے ہیں

English	تلفظ	اردو
All interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out.	آل انٹرسٹ اینڈ یورسز ڈیوے اکیورنگ فرام دی ہائرسز آف انورٹنس شینڈ واہپڈ آؤٹ	سارے مزاح اور سود کے واجبات جو کہ جہالت کے دنوں سے چلے آ رہے تھے ختم کئے جاتے ہیں

And	the first	amount	of	interest	that	I	remit	is
اینڈ	دی فٹ	اماؤنٹ	آف	انٹریٹ	ڈیٹ	آئی	ریمٹ	ایز
اور	سب سے پہلے	رقم	کی	سود	جو کہ	میں	ختم	ہے

that	which	Abbas ibn Ab-dul-Muttalib	had	to	receive
ڈیٹ	وج	عباس ابن عبدالمطلب	ہیڈ	نو	ریسیو
وہ	جسے	عباس ابن عبدالمطلب	تھی	سے	لیٹی

English	تلفظ	اردو
And the first amount of interest that I remit is that which Abbas ibn Ab-dul-Muttalib had to receive.	اینڈ دی فٹ اماؤنٹ آف انٹریٹ ڈیٹ آئی ریمٹ از ڈیٹ وج عباس ابن عبدالمطلب ہیڈ نو رسیو۔	سب سے پہلے سود کی رقم جو کہ عباس ابن عبدالمطلب نے لیٹی تھی، میں ختم کرتا ہوں۔

Verily	it	is	remitted	entirely
دیرلی	اٹ	از	ریمیڈ	انٹارلی
یقیناً	اے	ہے	ختم کیا	کھل طور پر

English	تلفظ	اردو
Verily it is remitted entirely.	دیرلی اٹ از ریمیڈ انٹارلی۔	یقیناً اے کھل طور پر ختم کیا جاتا ہے۔

While Reading: پڑھنے کے دوران:

Q. Whose Interest was remitted by the Rasool (صلی اللہ علیہ وسلم)؟

Ans: The interest of Abbas ibn Ab-dul-Muttalib was remitted by Rasool (صلی اللہ علیہ وسلم) نے معاف کیا؟

جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس ابن عبدالمطلب کا سود معاف کیا۔

O' people!	Verily	your	blood,	your	property	and	your	honour
اودہ پی پل۔	دیرلی	یور	بلڈ	یور	پراپرٹی	اینڈ	یور	آنر
اے لوگو!	درحقیقت	آپ کا	خون	آپ کا	مال	اور	آپ	عزت

are	sacred	and	inviolable	until	you	appear	before	your
آر	سکرڈ	اینڈ	ان وائے لیبل	ان ٹیل	یو	ایپیر	بی فور	یور
ہیں	مقدس	اور	پاک	جس طرح کہ	تم	حاضر	سامنے	آپ اپنے

Lord,	as	the sacred	inviolability	of	this	day	of	yours.
لارڈ	ایز	دی سکرڈ	پاکیزگی	آف	ڈس	ڈے	آف	یورز،
اللہ	جیسے	مقدس	پاکیزگی	کی	اس	دن	کا	آپ

this	month	of	yours	and	this	very	town	(of yours).
ڈس	منٹھ	آف	یورز	اینڈ	ڈس	دیری	ٹاؤن	(آف یورز)
اس	مہینہ	کا	آپ	اور	یہی	بالکل	شہر	آپ کا

English	تلفظ	اردو
O' people! Verily your blood, your property and your honour are sacred and inviolable until you appear before your Lord, as the sacred inviolability of this day of yours, this month of yours and this very town (of yours).	اوپہ لی پل۔ ویری لی یوزر بلڈ، یوزر پراپرٹی اینڈ یوزر آنر آر سیکرڈ اینڈ ان وائے لیبل ان ٹل یواہیر بی فور یوزر لارڈ ایڈی سیکرڈ ان وائے لیبل ایٹی آف ڈس ڈے آف یوزر، ڈس مٹھ آف یوزر اینڈ ڈس ویری ٹاؤن (آف یوزر)	اے لوگو! درحقیقت یہاں تک کہ آپ اپنے مجبود کے حضور حاضر ہوں آپ کا خون، آپ کا مال اور آپ کی عزت اس طرح مقدس اور پاک ہیں جس طرح کہ آپ کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہی آپ کا شہر مقدس ہے۔

Verily	you	will	soon	meet	your	Lord	and	you
ویری لی	یو	ول	سون	میٹ	یوزر	لارڈ	اینڈ	یو
یقیناً	تم	گے	جلد	سے ملو	اپنے	پروردگار	اور	تم

will be	held	answerable	for	your	actions
ول بی	ہیلڈ	آنسر ایبل	فار	یوزر	ایکشنز
ہو گے	پیش	جوابدہ	کے لئے	اپنے	تمام اعمال

English	تلفظ	اردو
Verily you will soon meet your Lord and you will be held answerable for your actions.	ویری لی یو ول سون میٹ یوزر لارڈ اینڈ یو ول بی ہیلڈ آنسر ایبل فار یوزر ایکشنز	یقیناً تم جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور تم اپنے تمام اعمال کے لئے جوابدہ ہو گے

While Reading:

Q: Which month do you think is referred here?

Ans: The month of Zil-Hajjah is referred here.

پڑھنے کے دوران:
آپ کے خیال میں یہاں کس مہینے کا حوالہ دیا گیا ہے؟
جواب: ذوالحجہ کے مہینے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔

Treat	the women	kindly,	since	they	are	your	helpers	and	not
ٹریٹ	دی وومین	کانڈلی	سینس	ڈے	آر	یوزر	ہیلپرز	اینڈ	ناٹ
پیش آؤ	عورتوں	نرمی سے	جب سے	وہ	ہیں	تمہاری	مددگار	اور	نہیں

in	a	position	to manage	their	affairs	themselves.	Fear	Allah
ان	آ	پوزیشن	ٹو منیج	دیر	انفیرز	دیم سیلوز	فیمیر	اللہ
میں	ایک	حیثیت	بندوبست کریں	وہ	تمام معاملات	اپنے	ڈرو	اللہ

concerning	women,	for	verily	you	have	taken	them	on
کنسرنگ	وومین	فار	ویری لی	یو	ہو	ٹیکن	دیم	آن
معالے میں	عورتوں	کے لئے	یقیناً	تم نے	ہے	لیا	ان کی	سے

the security	of	Allah	and	have	made	their	persons
دی سکیورٹی	آف	اللہ	اینڈ	ہو	میڈ	دیر	پرسنز
حفاظت	سے	اللہ	اور	کیا	کی طرف	تمہیں	مرد

lawful	unto	you	by	words	of	Allah
لائفل	ان ٹو	یو	بائے	ورڈز	آف	اللہ
حق دار	پر	تم	سے	قلم	کی	اللہ

English	تلفظ	اردو
Treat the women kindly, since they are your helpers and not in a position to manage their affairs themselves. Fear Allah concerning women, for verily you have taken them on the security of Allah and have made their persons lawful unto you by words of Allah.	ٹریٹ دی وو مین کا سنڈ لی سس وے آر یوزر ہیلپر ز اینڈ ناٹ ان آپوزیشن ٹو منج ڈیز افریز ڈو ایم سیلوز۔ فیر اللہ کنسرننگ وو مین فار ویری لی یوزر ٹیکن ڈیم آن دی سکیورٹی آف اللہ اینڈ ہیومیڈ ڈیزر پرسنز لائل ان ٹو یو بائے ورڈز آف اللہ	مورتوں سے نرمی سے پیش آؤ وہ تمہاری مددگار ہیں وہ اپنے تمام معاملات حل کرنے کا بندوبست نہیں کر سکتیں مورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یقیناً تم نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نام سے جسے ان کے لئے حق دار مقرر کیا گیا۔

While Reading:

پڑھنے کے دوران:

Q: How should women be treated by men?

☆ مردوں کو مورتوں سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟

Ans: Women should be treated by men kindly.

جواب: مردوں کو مورتوں سے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔

O' people!	Allah,	the Mighty	and	Exalted,	has	ordained
اوپنی پل	اللہ	دی مائی	اینڈ	ایگزال ٹیڈ	ہیز	آرڈینڈ
اے لوگو!	اللہ تعالیٰ	جو کہ بزرگ	اور	برتر	ہے	دراشت

to	every one	his	due	share	(of	inheritance)
ٹو	ایوری ون	ہز	ڈیو	شیر	آف)	(ان ہیری ٹیس)
میں	ہر ایک	اس نے	کر رکھا	حصہ	کا	مقرر

English	تلفظ	اردو
O' people! Allah, the Mighty and Exalted, has ordained to every one his due share (of inheritance).	اوپنی پل اللہ دی مائی اینڈ ایگزال ٹیڈ ہیز آرڈینڈ ٹو ایوری ون ہز ڈیو شیئر (آف ان ہیری ٹیس)	اے لوگو! اللہ تعالیٰ جو کہ بزرگ و برتر ہے اس نے دراشت میں تم میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر کر رکھا ہے

All	debts	must be	repaid,	all	borrowed	property
آل	ڈیبٹس	مسٹ بی	ری پیڈ	آل	باروڈ	
تمام	قرضے	جائیں گے	ادا کئے	تمام	ادھار لی گئی	جائیدادیں

must be	returned,	gifts	should be	reciprocated	and
مسٹ بی	ری ٹرنڈ	گفٹ	ہڈ بی	ریسی پرو کیوڈ	اینڈ
ضرور	واپس کی	تحائف	ہوگا	باہمی تبادلہ	اور

a	surety	must	take	good	the loss	to	the assured
آ	شورٹی	مسٹ	ٹیک	گڈ		ٹو	
ایک	ضمانت	ہوگا	ازالہ	بہتر	نقصان		ضامن

English	تلفظ	اردو
All debts must be repaid, all borrowed property must be returned, gifts should be reciprocated and a surety must take good the loss to the assured.	آل ڈیبٹس مسٹ بی ری پیڈ آل باروڈ پراپٹی مسٹ بی ری ٹرنڈ گفٹ ہڈ بی ریسی پرو کیوڈ اینڈ شورٹی مسٹ ٹیک گڈ دی لاس ٹو دی ایسورڈ	تمام قرضے ادا کئے جائیں گے اور ادھار لی گئی جائیدادیں واپس کی جائیں گی۔ تحائف کا باہمی تبادلہ ہوگا۔ اور یقیناً ہر ضامن کے نقصان کا بہتر ازالہ ہوگا۔

Beware!	No	one	committing	a	crime	is	responsible	for	it	but	himself.
بی ویزر	نو	ون	کو میٹنگ	آ	کرائم	یز	ریسپونسی بل	فار	ایٹ	بٹ	ہیم سیلف
خبردار	نہیں	کوئی	کرتا ہے	ایک	جرم	ہے	ذمہ دار	کے لیے	اس	لیکن	خود ہی

Beware! No one committing a crime is responsible for it but himself

بی دیر	کوئی	دن	کوئی	آ	کرائم	از	رسپوسبل	فار	ات	بٹ	ہم سیلف
خبردار	کوئی	کوئی	کرتا ہے	ایک	جرم	ہے	ذمہ دار	کے لیے	اس	لیکن	خود ہی

English

Beware! No one committing a crime is responsible for it but himself.

اردو
خبردار۔ جو کوئی بھی جرم کرتا ہے وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا کوئی اور نہیں
فار اٹ بٹ ہم سیلف
بی دیر۔ نو دن کوئی کرائم آ کر اٹ بٹ ہم سیلف

Neither the child is responsible for the crime of his father.

نادر	دی چائلڈ	از	رسپوسبل	فار	دی کرائم	آف	ہز	قادر
نہی	بچے	ہے	ذمہ دار	کے	جرم	کا	اپنے	باپ

nor is the father responsible for the crime of his child

نار	از	دی قادر	رسپوسبل	فار	دی کرائم	آف	ہز	چائلڈ
نہی	ہے	باپ	ذمہ دار	کے لیے	جرم	کے	اپنے	بچے

English

Neither the child is responsible for the crime of his father, nor is the father responsible for the crime of his child.

اردو
نہی بچے اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار ہے نہ ہی باپ اپنے بچے کے جرم کا ذمہ دار ہے
نادر دی چائلڈ از رسپوسبل فار دی کرائم آف ہز قادر
نار از دی قادر رسپوسبل فار دی کرائم آف ہز چائلڈ

Nothing of his brother is lawful for a Muslim

تھنگ	آف	ہز	برادر	از	لائفل	فار	آ	مسلم
کوئی نہیں	کا	اس کے	بھائی	ہے	حق دار	کے لیے	ایک	مسلمان

except what he himself gives willingly

ایکسپٹ	وٹ	ہی	ہم سیلف	گیوز	وٹنگلی
سوائے	جو	اس کی وہ	خود	دے	مرضی سے

English

Nothing of his brother is lawful for a Muslim except what he himself gives willingly.

اردو
کسی مسلمان کا بھائی کا قانون کی نظر میں اس کی چیز کا وارث نہیں سوائے اس چیز کے جو خود اپنی مرضی سے دے
تھنگ آف ہز برادر از لائل فار اسلام ایکسپٹ
وٹ ہی ہم سیلف گیوز وٹنگلی

So do not wrong yourselves

سو	ڈونٹ	رونگ	یورسیلوز
پس	مت بناؤ	غلط	اپنے آپ کو

English

So do not wrong yourselves.

اردو
سو ڈونٹ روٹنگ یورسیلوز
پس اپنے آپ کو غلط مت بناؤ

O' People! Every Muslim is the brother of every other

او۔ پی پل	ایوری	مسلم	از	دی برادر	آف	ایوری	اور
اے لوگو!	ہر	مسلمان	ہے	بھائی	کا	ہر	دوسرے

Muslim, and all the Muslims form one brotherhood

مسلم	اینڈ	آل	دی مسلمز	فارم	ون	برادر ہڈ
مسلمان	اور	سب	مسلمان	بناتے ہیں	ایک	بھائی چارہ

English	تلفظ	اردو
O' People! Every Muslim is the brother of every other Muslim, and all the Muslims form one brotherhood.	او۔ لی ہل ایوری مسلم ازوی برادر آف ایوری اور مسلم اینڈ آل دی مسلمز فارم ون برادر ہڈ	اے لوگو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان مل کر ایک بھائی چارہ بناتے ہیں

And	your	slaves,	see	that	you	feed	them	with
اینڈ	یور	سلیوز	سی	دیت	یو	فیڈ	دیم	وڈ
اور	تمہارے	غلام	دیکھو	وہی	تم	کھلاؤ	ان کو	ساتھ

such	food	as	you	eat	yourselves,	and	clothe
سچ	فوڈ	ایز	یو	ایٹ	یورسیلز	اینڈ	کاتھ
وہی	کھانا	جو	تم	کھاتے	خود	اور	پڑے

them	with	the clothes	that	you	yourselves	wear
دیم	وڈ	دی کلاس	دیت	یو	یورسیلز	دیر
ان کو	وہی دو	پڑے	جو کہ	تم	جو خود	پہنتے

English	تلفظ	اردو
And your slaves; see that you feed them with such food as you eat yourselves, and clothe them with the clothes that you yourselves wear.	اینڈ یور سلیوز سی دیت یو فیڈ دیم وڈ سچ فوڈ ایز یو ایٹ یورسیلز اینڈ کاتھ دیم وڈ دی کلاس دیت یو فیڈ دیم وڈ دی کلاس دیت یو فیڈ دیم وڈ دی کلاس دیت یو فیڈ دیم وڈ دی کلاس	اور تمہارے غلام۔ دیکھو تم ان کو وہی کھانے کو دو جو تم خود کھاتے ہو اور ان کو پہننے کے لیے وہی پڑے دو جو تم خود پہنتے ہو۔

Verily	I	have	left	amongst	you	that	which	will
دیرلی	آئی	ہیو	لیفٹ	انگسٹ	یو	دیت	وچ	ول
یقیناً	میں	چار ہوں	کچھ چھوڑے	درمیان	تمہارے	کہ	جو	دے گا

never	lead	your	astray	the Book	of	Allah,	which
نیور	لیڈ	یور	ایسٹری	دی بک	آف	اللہ	وچ
نہیں	رکھے گا	جو تمہیں	بھٹکنے	کتاب	کی	اللہ	جو کہ

if	you	hold	fast	you	shall	never	go	astray
اِف	یو	ہولڈ	فاسٹ	یو	شیل	نیور	گو	ایسٹری
اگر	تم	تھامو	مضبوطی	تمہیں	لوگے	نہیں	دے گی	بھٹکنے

English	تلفظ	اردو
Verily I have left amongst you that which will never lead your astray, the Book of Allah, which If you hold fast you shall never go astray.	دیرلی آئی ہیو لیفٹ انگسٹ یو دیت وچ ول نیور لیڈ یور ایسٹری دی بک آف اللہ۔ وچ آف یو ہولڈ فاسٹ یو شیل نیور گو ایسٹری۔	یقیناً میں تمہارے درمیان کچھ چھوڑے چار ہوں جو تمہیں بھٹکنے نہیں دے گی اللہ کی کتاب۔ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کسی نہیں بھٹکو گے۔

While Reading:
Q: What has been left by the Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) for Muslims?
 رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مسلمانوں کے لئے کیا چھوڑا؟

Ans: Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ) left Holy Book for Muslims.

جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے مقدس کتاب چھوڑی۔

Behold!	Worship	your	Lord,	offer	prayers	five	times	a
بی ہولڈ	درشپ	یور	لارڈ	آفر	پریرز	فائیو	ٹائمز	آ
دیکھو	عبادت کرو	اپنے	خدا	ادا کرو	نماز	پانچ	وقت	ایک

day,	observe	fast	in	the month	of	Ramadan,	pay
ڈے	آبزرو	فاسٹ	ان	دی مٹھ	آف	رامادان	پے
دن	زکوٰۃ	روزے	میں	مہینے	کے	رمضان	ادا کرو

readily	the Zakat	(poor due)	on	your	property,	and	perform
ریڈی لی	دی زکوٰۃ	پوور ڈیو	آن	یور	پراپرٹی	اینڈ	پرفارم
بخوشی	زکوٰۃ	غریبوں کا بھی حق	پر	تمہاری	جائیدادوں	اور	ادا کرتے رہتا

pilgrimage	to	the House	of	Allah	and	obey	your	rulers
پلگریج	ٹو	دی ہاؤس	آف	اللہ	اینڈ	اوبے	یور	رولرز
زیارت	کی طرف	گھر کی	کے	اللہ	اور	بیروی	اپنے	حکمرانوں

and	you	will	be	admitted	to	the Paradise	of	your	Lord
اینڈ	یو	ول	بی	ایڈمٹڈ	ٹو	دی ہیراڈائنز	آف	یور	لارڈ
اور	تم	گے	جاؤ	میں داخل	میں	جنت	کی	اپنے	پروردگار

English	تلفظ	اردو
Behold! Worship your Lord; offer prayers five times a day; observe fast in the month of Ramadan; pay readily the Zakat (poor due) on your property; and perform pilgrimage to the House of Allah and obey your rulers and you will be admitted to the Paradise of your Lord.	بی ہولڈ۔ درشپ یور لارڈ آفر پریرز فائیو ٹائمز ایک دن میں پانچ وقت نماز ادا کرو رمضان میں روزے رکھو اور خوشی سے زکوٰۃ ادا کرو تمہاری جائیدادوں پر غریبوں کا بھی حق ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہنا اپنے حکمرانوں کی بیروی کرنا اور تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔	دیکھو۔ اپنے خدا کی عبادت کرو۔ دن میں پانچ وقت نماز ادا کرو رمضان میں روزے رکھو اور خوشی سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تمہاری جائیدادوں پر غریبوں کا بھی حق ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہنا اپنے حکمرانوں کی بیروی کرنا اور تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

Let	him	that	is	present	convey	it	unto	him	who	is	absent
لیٹ	ہم	دیت	از	پریسینٹ	کنوے	اٹ	انٹو	ہم	ہو	از	ایب سینٹ
جو	اے	وہ	ہے	حاضر	پیغام پہنچا دو	وہ	تک	اس	جو	ہے	غیر حاضر

English	تلفظ	اردو
Let him that is present convey it unto him who is absent.	لیٹ ہم دیت از پر سے زینٹ کنوے اٹ انٹو ہم ہو اڈایب سینٹ	جو حاضر ہے وہ اپنے اور جو حاضر نہیں اس تک یہ پیغام پہنچا دو۔

And	if	you	were	asked	about	me,	what	would	you	say?
اینڈ	اگ	یو	ور	آسکڈ	اہاؤٹ	می	وٹ	وڈ	یو	سے
اور	اگر	تم	گے	پوچھا	متعلق	میرے	کیا	گیا	تم	کہو

English	تلفظ	اردو
And if you were asked about me, what would you say?	اینڈ آف یو در آکسڈ ہاؤٹ می وٹ ڈو ڈیو سے	اور اگر تم سے میرے متعلق پوچھا گیا تو تم کیا کہو گے؟

"They answered, "We bear witness that you have	
دے	آسر ڈوئی
انہوں	جواب دیا ہم

conveyed the message (of religion) and discharged your	
کنویڈ	دی میسج
پہنچا دیا	پیغام

ministry of Nabuwat and looked to our welfare"	
منشری	آف نبوت
منصب	نبوت

English	تلفظ	اردو
"They answered, "We bear witness that you have conveyed the message (of religion) and discharged your ministry of Nabuwat and looked to our welfare."	دے آسر ڈوئی بیئر ونیس دیٹ یو ہیو کنویڈ دی میسج آف ریلیجین اینڈ ڈسچارجڈ یوئر منشری آف نبوت اینڈ لکڈ ٹو اوور ویل فیئر منسب کو ادا کیا اور ہماری بھلائی کو مد نظر رکھا۔	انہوں نے جواب دیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا اور نبوت کے منصب کو ادا کیا اور ہماری بھلائی کو مد نظر رکھا۔

There upon Allah's Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ) lifted his forefinger	
دیر	اپان اللہ
اس	وقت اللہ

towards the sky and then pointing towards people said:	
ٹورڈز	دی سکاکی
کی طرف	آسمان

English	تلفظ	اردو
There upon Allah's Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ) lifted his forefinger towards the sky and then pointing towards people said:	دیر اپان اللہ رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ لفظ ہز فور فنگر ٹورڈز دی سکاکی اینڈ دین پوائنٹنگ ٹورڈز پیپل سیڈ:	اس وقت اللہ کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی پھر لوگوں کی طرف کی اور کہا

"O Lord: Bear Thou witness unto it "O Lord: Bear Thou witness unto it.	
اولارڈ	بیر دو ونیس
میرے پروردگار	رہنا تو گواہ

English	تلفظ	اردو
"O' Lord: Bear Thou witness unto it.	اولا رڈ ہیر دو ونیس ان ٹواٹ	میرے پروردگار تو اس کا گواہ رہنا
"O' Lord: Bear Thou witness unto it.	اولا رڈ ہیر دو ونیس ان ٹواٹ	میرے پروردگار تو اس کا گواہ رہنا

The holy sermon was delivered by the Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)						
دی ہولی	سرین	واز	ڈیلیورڈ	ہائے	دی رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	
مبارک	خطبہ	ہے	دیا گیا	جو کہ	رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	

in the plain of Arafat, near the hill named Jabel-e-Rehmat						
ان	دی پلین	آف	عرفات	نیر	دی ہل	نیمڈ
میں	میدان	کے	عرفات	نزدیک	ایک پہاڑی	جس کا نام

English	تلفظ	اردو
The holy sermon was delivered by the Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) in the plain of Arafat, near the hill named Jabel-e-Rehmat.	دی ہولی سرین واز ڈیلیورڈ ہائے دی رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے خطبہ مبارک عرفات کے میدان میں دیا جو کہ ایک پہاڑی جس کا نام جبل رحمت ہے اس کے نزدیک ہے	رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے خطبہ مبارک عرفات کے میدان میں دیا جو کہ ایک پہاڑی جس کا نام جبل رحمت ہے اس کے نزدیک ہے

It can well be claimed as the first ever						
اٹ	کین	ویل بی	کہمڈ	ایز	دی فسٹ	ایور
اس خطبہ مبارک	جاسکتا ہے	بہتر	کہا جاسکتا	جیسے	پہلا	انتہائی

'Universal Charter of Human Rights'		
یونیورسل چارٹر	آف	ہیومن رائٹس
بین الاقوامی منشور	کو	انسانی حقوق

English	تلفظ	اردو
It can well be claimed as the first ever 'Universal Charter of Human Rights'.	اٹ کین ویل بی کہمڈ ایز دی فسٹ ایور یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس	اس خطبہ مبارک کو پہلا بین الاقوامی انسانی حقوق کا بہتر منشور کہا جاسکتا ہے

All the obligations of Islam have been precisely					
آل	دی آئی کیشنز	آف	اسلام	ہوئین	پری سائس لی
تمام	فرائض	کے	اسلام	گئے ہیں	یعنی طور پر

and beautifully mentioned the there in.			
اینڈ	بیوٹی فلی	مینٹنڈ	دی ڈیر ان
اور	خوبصورتی	موجود ہیں	سے اس میں

English	تلفظ	اردو
All the obligations of Islam have been precisely and beautifully mentioned the there in.	آل دی آئی کیشنز آف اسلام ہوئین پری سائس لی اینڈ بیوٹی فلی مینٹنڈ دی ڈیر ان	اسلام کے تمام فرائض یعنی طور پر اور خوبصورتی سے اس میں درج ہیں۔

Vocabulary ذخیرہ الفاظ

A Match the words with meaning in context. سیاق و سباق کے حوالے سے الفاظ کو معانی کے ساتھ ملائیں۔

Word الفاظ	Meaning معانی
aspects پہلو	relating to heavy interest
usurious بھاری سود	children
progeny اولاد	sides
remit سواغ کرنا	lack of awareness
ignorance جہالت	to free somebody from

B 'Freely' is a word that you have read in the text. 'Willingly' is another word with a different meaning.

"Freely" ایک لفظ ہے جسے آپ نے کتاب کے سبق میں پڑھا ہے۔
 "Willingly" ایک دوسرا لفظ ہے جس کے معنی مختلف ہیں۔
 Consult a dictionary to know the difference in the meaning of both words.
 دونوں الفاظ کے فرق معلوم کرنے کے لیے لغت استعمال کریں۔
 Use both words in sentences to clearly bring out the meaning.
 دونوں الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تاکہ معنی واضح ہو۔

Freely = allowing to do or use as one Pleasure with out any restriction.
 Willingly = doing eagerly; giving voluntarily

Words	معنی	Sentences
Freely	آزادانہ	We used everything in the house freely.
Willingly	رضامندی سے	We willingly allowed them to use everything in the house.

Reading Comprehension پڑھ کر سمجھنا

A Read paragraph 1 of the lesson and identify: سبق کا حصہ 1 پڑھیں اور شناخت کریں۔

Topic Sentence → _____
 Supporting details (examples) → _____
 main idea of the paragraph → _____

Topic sentence **موضوعی جملہ**

Ans: Islam covers all the aspects of human life.

Supporting details (examples):
 معاون تفصیل (مثالیں)

Ans: Islam is a complete code of life, Hazrat Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ is the last Rasool of Allah. He advised his companions in his last sermon to devote their lives for the service of Islam to gain the glory of Allah. A guidelines to the Muslims and entire humanity to lead a successful life.

Main idea of the paragraph
 پیرے کا مرکزی خیال

Ans: Our success in this world and the world hereafter lies in leading our lives to the true spirit of Islam.

B Answer the following questions. مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔

1. Which aspect of human life does Islam cover?
 اسلام انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے؟

Ans. Islam covers all aspects of human life. It is not only a religion but also a complete code of life.

تجواب: اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔

2. When and where was the last sermon delivered?
 سوال: آخری خطبہ مبارک کب اور کہاں دیا گیا؟

Ans. Last sermon was delivered on 9th Zilhajj 10 A.H in the plain of Arafat.

تجواب: آخری خطبہ مبارک 9 ذی الحج 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں دیا گیا۔

3. Why were the practices of the days of ignorance abolished?
 سوال: زمانہ جاہلیت کے کاموں کو ختم کیوں کیا گیا؟

Ans. The practices of the days of ignorance were abolished because they were against the humanity.

تجواب: زمانہ جاہلیت کے کاموں کو ختم کیا گیا کیونکہ وہ انسانیت کے خلاف کام تھے۔

4. Why should we treat women kindly?
 سوال: ہمیں عورت کے ساتھ رحمدلی سے کیوں پیش آنا چاہیے؟

Ans. We should treat women kindly because they are our partner in every work.

جواب: ہمیں عورت کے ساتھ رحمدلی سے پیش آنا چاہیے کیونکہ وہ ہر کام میں ہماری مددگار ہیں۔

5. What are the important points of the last sermon of the Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؟

سوال: رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے آخری خطبہ مبارک کے اہم نکات کیا ہیں؟

Ans. The important points of the last sermon of the Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) are: all human beings are equal; no one is superior to another; the most honoured is one who is most God-fearing; all practices of the days of ignorance are abolished; all the Muslims form one brotherhood; women should be treated kindly; feed and clothe the slaves as we do ourselves; say prayers five times a day; pay Zakat; perform pilgrimage and seek guidance from the book of Allah.

رسول پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے آخری خطبے کے اہم نکات یہ ہیں: تمام بنی نوع انسان برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج ختم کر دیئے گئے ہیں، تمام مسلمان ایک بھائی چارہ ہیں، عورتوں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا چاہیے، غلاموں کو وہی کھلانا اور پہنانا چاہیے جو ہم خود کھاتے اور پہنتے ہیں، پانچ وقت دن میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ حج ادا کریں اور اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کریں۔

6. Why is the "Last Sermon" called the universal charter of human rights?

سوال: آخری خطبہ مبارک کو "بین الاقوامی انسانی حقوق کا منشور" کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: آخری خطبہ مبارک کو "بین الاقوامی انسانی حقوق کا منشور" اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔

© Fill in the blanks with appropriate words.

مناسب الفاظ سے خالی جگہوں کو پُر کریں۔
partner, praise, answerable, helpers, covers, brother

No.	Statement	Word
1.	Islam _____ all the aspects of human life.	Covers
2.	All _____ be to Allah.	praise
3.	You will be held _____ for your actions.	answerable

4.	Women are our _____ who cannot manage their affairs themselves.	helpers
5.	There is no God but Allah, the One, having no _____ with Him.	partner
6.	Every Muslim is the _____ of every other Muslim.	brother

Use of Thesaurus لغت کا استعمال

A thesaurus is a book containing synonyms of a word. لغات ایک کتاب ہے جس میں الفاظ کے مترادف موجود ہوتے ہیں۔
For example: مثال کے طور پر

bright	چمکدار	sparkling, brilliant, glittering, twinkling
fight	لڑائی	quarrel, dispute, battle, clash
hard	سخت	firm, severe, tough, stiff
crime	جرم	offence, sin, misdeed, fault.

Do you Know? کیا آپ جانتے ہیں؟

What is thesaurus? لغت کیا ہے؟
Ans. Thesaurus is a vocabulary of words arranged alphabetically.

لغت الفاظ کا ذخیرہ ہے جو حروف تہجی کی ترتیب سے ہوتا ہے۔
Have you ever used a thesaurus?

کیا آپ نے کبھی لغت استعمال کی؟
Ans. Yes: I do. جی ہاں میں نے کی ہے۔

Do you have a thesaurus of your own?
کیا آپ کے پاس اپنی لغت کی کتاب ہے؟

جی ہاں میرے پاس ہے۔
How can you find a word in thesaurus?
ہم لغت میں لفظ کیسے تلاش کرتے ہیں؟

Ans. I do it alphabetically.
میں حروف تہجی سے ان کو تلاش کرتا ہوں۔

© Use the thesaurus to write the synonyms of the following words.

deliver	guideline	legitimate	lawful
willingly	custody	astray	convey

درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھنے کے لئے لغت استعمال کریں

Words	Meaning	Synonyms
deliver	ادا کرنا، دینا	send, transmit, dispatch, present, give

guideline	رہنمائی	direction, instruction, guiding principle, rule
legitimate	جائز	legal, lawful, authorized, permissible, genuine
lawful	جائز	legal, legitimate, licit, rightful, constitutional
Willingly	رضامندی سے	freely, voluntarily, happily, gladly, eagerly
custody	حفاظت	protection, care, charge, supervision, keeping
astray	بھٹک جانا	wrong, off the right track; straying, loose, missing
convey	آگے پہنچانا	transport, carry, move, shift, pass on, tell.

Grammar قواعد

Common noun اسمِ مکرمہ

1. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind.

اسمِ مکرمہ وہ نام ہے جو کسی عام شخص یا چیز کے لئے استعمال ہو۔

2. For example: woman, dog, bag, office, hospital etc. مثال کے طور پر عورت، کتا، بیگ، دفتر، ہسپتال، وغیرہ۔

3. A common noun does not require a capital letter and takes an article before it.

اسمِ مکرمہ میں بڑے حروف استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے آرٹیکل لکھا جاتا ہے۔

Proper noun اسمِ معرّفہ

1. A proper noun is the name of some particular person place or thing.

اسمِ معرّفہ کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام ہے۔

2. For example: Irfan, Islamabad, Quran, Islam, etc. مثال کے طور پر عرفان، اسلام آباد، قرآن، اسلام، وغیرہ۔

3. A proper noun is always written with a capital letter at the beginning and does not usually take an article before it.

اسمِ معرّفہ ہمیشہ بڑے حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور عام طور پر اس سے پہلے آرٹیکل نہیں لکھا جاتا ہے۔

A Read paragraphs 3-5 of the lesson and make a list of Common Nouns.

سبق کا آخری پارہ 3 سے 5 تک پڑھیں اور اسمِ مکرمہ کی فہرست بنائیں۔

Ans: year, male, female, tribe, nation, brother, heals, neck, day, interest.

B Read the last paragraphs of the lesson and make a list of Proper Nouns.

سبق کا آخری پارہ پڑھیں اور اسمِ معرّفہ کی فہرست بنائیں۔

Ans: The Rasool عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، Arafat, Jabel-e-Rehmat, Islam.

Pronoun

A pronoun is a word used instead of a noun or name to avoid repetition.

اسمِ ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم یا نام کی بار بار دہرائی سے بچنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

The personal pronouns are 'I, it, you, he, she, they we' etc. Pronouns can be used as subject as well as object.

ذاتی اسمِ ضمیر 'I, it, you, he, she, they we' اور غیر ذاتی اسمِ ضمیر 'we, they, it, he, she, he, she, they we' کے استعمال کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

For example:

Saleem and Ajmal are neighbours. They are fast friends. Everybody knows them.

C Read the following and underline the pronouns. درج ذیل کو پڑھیں اور اسمِ ضمیر کو خط کشیدہ کریں۔

No.	Statement
1.	He (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ) delivered his last sermon on 9th Zil-Hajjah, 10 A.H.
2.	He (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ) advised his companions to devote their lives for the service of Islam.
3.	If you were asked about me what would you say?
4.	All praise is due to Allah, so we praise Him.
5.	Verily you will soon meet your Lord.

D Read each set of sentence. Encircle the pronoun in the second sentence. Underline the noun or nouns in the first sentence that the pronoun replaces. The first one is done for you.

جملوں کے ہر سیٹ کو پڑھیں۔ دوسرے جملے میں اسمِ ضمیر کے گرد دائرہ لگائیں۔ پہلے جملے میں اسم یا اسموں کے نیچے لکیر لگائیں جن کو اسمِ ضمیر میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا سیٹ آپ کے لئے حل کر دیا گیا ہے۔

1. The hearing is used for hearing	It is used for hearing.
------------------------------------	-------------------------

2. <u>Bees</u> collect pollen.	<u>They</u> collect pollen.
3. <u>Mother and father</u> went to the market.	<u>They</u> went to the market.
4. <u>Sabeeha</u> went home.	<u>She</u> went home.
5. <u>Books and magazines</u> were piled on the table.	<u>They</u> were piled on the table.
6. <u>Adnan</u> ran in the race.	<u>He</u> ran in the race.

Regular Verb باقاعدہ فعل

A regular verb is the one that follows the pattern of taking -ed for the Simple Past and Past Participle forms.

باقاعدہ فعل وہ فعل ہوتا ہے جو دوسری اور تیسری فارم میں -ed کے نمونے کی پیروی کرتا ہے۔

For example: end — ended

Irregular verb بے قاعدہ فعل

An Irregular Verb is one that does not take -ed ending for the Simple Past and Past Participle forms.

بے قاعدہ فعل وہ فعل ہوتا ہے جو دوسری اور تیسری فارم میں -ed پر ختم نہیں ہوتا۔

For example: catch — caught

E Identify regular and Irregular verbs from the following.

مندرجہ ذیل میں سے باقاعدہ اور بے قاعدہ فعل کی شناخت کریں۔

run, add, go, pray, light, delay, tie, fly, mend, laugh, come

Regular	Irregular
tie	run
add	go
light	fly
laugh	come
mend	pray
delay	

Simple Present Tense سادہ فعل حال

The Simple Present Tense is used to express a habitual action.

سادہ فعل حال کو عادات کے عمل کے اظہار کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

For example:

We take refuge with Allah Almighty.

ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔

My clock keeps correct time.

میری گھڑی صحیح وقت بتاتی ہے۔

F Fill in the blanks using the Simple Present Tense of the verbs given in brackets. بریکٹوں میں دیے گئے فعلوں کو سادہ فعل حال کے مطابق استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پُر کیجیے۔

No.	Statement	Word
1.	Everyman <u>knows</u> what to do.	know
2.	Each child <u>receives</u> a present.	receive
3.	My father daily <u>drives</u> me and my sister to school.	drive
4.	The sun <u>rises</u> in the east.	rise
5.	None of the students <u>has</u> a ticket.	have

G Pick out few Simple Present Tense sentences from the lesson.

سبق میں سے چند سادہ فعل حال کے جملے منتخب کریں

- Ans: 1. We seek refuge with Allah.
2. Allah says, "O people, we created you."
3. Islam covers all aspects of human life.
4. He grants life and causes of death.

Punctuation رموز اوقاف

Punctuation means the right use of putting in points or stops in writing. The following are the principal stops:

رموز اوقاف سے مراد علامات اوقاف کا تحریر میں درست انداز میں استعمال کرنا۔

اوقاف کی بڑی بڑی علامات حسب ذیل ہیں۔

1. Full stop or period (.)
2. Comma (,)
3. Semicolon (;)
4. Colon (:)
5. Question mark (?)
6. Exclamation mark (!)
7. Apostrophe (')
8. Quotation marks (" ")

H Punctuate the following sentences:

درج ذیل جملوں میں رموز اوقاف لکھیں۔

1	where are you going.	Where are you going?
2	hurrah we have won the match.	Hurrah! We have won the match.
3	its a great tragedy	Alas! It is a great tragedy
4	lahore is the capital of punjab	Lahore is the capital of Punjab.
5	what a beautiful scene	What a beautiful scene!

Writing Skills لکھنے کی مہارتیں

A Write down in simple sentences what you do everyday.
(Use Simple Present Tense).

آپ روزانہ کیا کرتے ہیں سادہ جملوں میں لکھیں (سادہ فعل حال استعمال کریں)
Ans. I get up early in the morning. After having a bath, I offer the Fajar prayer and then recite the Holy Quran. Afterwards, I go out for a morning walk at a nearby garden. I take exercise there and come home. I take breakfast and wear my school uniform and go to school at half past seven O'clock. I come home at 2 O'clock. I change my uniform and my mother serves me lunch. After Lunch, I take rest for some time to get fresh. Then I go to the playground to play football with my friends. I come home before the sunset. I do my school homework and then watch television for some time. I go to bed at 9 O'clock. This is how I spend my day.

Oral Communication Skills زبانی گفتگو کی مہارتیں

Two boys are at the canteen. The host boy tries to skip away from the canteen without paying the bill.

دو لڑکے ایک کینٹین میں ہیں میزبان لڑکا بل ادا کئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔

Adnan: (calling the bearer) I was just checking you. I am proud of having such a noble and nice friend like you.

عدنان۔ خانسامہ کو پکارتا ہے میں صرف تمہیں پرکھ رہا تھا۔ مجھے فخر ہے تم جیسا ایسا سادہ دوست ملنے پر فخر ہے۔

Bilal: Me too, Thanks a lot.

بلال: مجھے بھی۔ آپ کا بہت شکریہ

Group Activity اجتماعی سرگرمی

Practise this conversation in pairs.

جوڑوں کی شکل میں اس گفتگو کی مشق کریں۔

Suggested Reading تجویز کردہ مطالعہ

Ask students to visit a library and read books on the life of Hazrat Muhammad (صلى الله عليه وسلم). Also share your knowledge about the Rasool (صلى الله عليه وسلم).
طلبہ کہیں کہو لائبریری میں جائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ پر کتابیں پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا علم بھی بیان کریں۔

Glossary اصطلاحات

Bilal: Hey! Adnan, stop.	بلال۔ سنو عدنان روکو
Adnan: Let's get out of here (In a whisper).	عدنان۔ (سرگوشی میں) چلو یہاں سے نکل جاتے ہیں
Bilal: No, I won't go without paying the bill.	عدنان۔ نہیں میں بل ادا کئے بغیر نہیں جاؤں گا
Adnan: Let's move. No bearer is around here.	بلال۔ چلو چلیں اب یہاں خانسامہ نہیں ہے
Bilal: It is dishonesty. Don't you know, Allah Almighty has forbidden us from dishonesty.	بلال۔ یہ خیانت ہے کہ تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیانت سے منع فرمایا ہے
Adnan: No way. You stay here. I am leaving.	عدنان: تم یہی رہو میں جا رہا ہوں
Bilal: No, not at all. If you don't have any money, I will pay your bill, but we are not going out without paying our bill.	بلال۔ بالکل نہیں۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو میں تمہارا بل ادا کر دوں گا۔ لیکن ہم بل ادا کیے بغیر نہیں جا رہے۔

addressed	said something directly to someone	خطاب کیا
astray	go in a wrong direction	غلط راستے کی طرف جانا
accruing	coming in addition as interest	اضافی
bondsman	slave, captive	غلام بندہ
confederate	a friend or an ally	ساتھی
custody	protective care	انتظام
Inheritance	money, property that one gets after someone's death	ورثہ
legitimate	lawful	حق دار
Ignorance	lack of knowledge or awareness	تعمیر کی کمی / شعور کی کمی

Inviolable مقدس	not to be broken or violated; sacred
ordained عمرالمی	command of Allah Almighty, fate decided by Allah Almighty
progeny اولادسینچ	children بچے
privilege حق اختیار	a right granted to an individual
refuge پناہ-سایہ	shelter, protection from danger
reciprocate تبادلہ کرنا	to give and receive mutually.
spirit روح-نظریہ	real or intended meaning, purpose of something
sovereignty حاکمیت	supreme and independent political power or authority
usurious سودی	relating or involving usury
verily یقیناً	truly, really واقعی، سچی
witness گواہی-شہادت	a person who sees something happen and is able to describe it to other people.

Test Preparation امتحانی تیاری

☆ Read the given paragraph and answer the question no. 1 - 5.

O' People Listen to my words, for I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year. O' Ye people! Allah says, "O' people We created you from one male and one female and made you into tribes and nations, so as to be known to one another." Verily in the sight of Allah, the most honoured amongst you is the one who is most God-fearing. An Arab has no superiority over a non-Arab nor does a non-Arab has any superiority over an Arab; also a white has no superiority over a black nor a black has any superiority over a white-except by piety and good action. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not therefore do injustice to yourselves.

1. In the sight of Allah the most honoured one who is:

- (a) rich (b) hard working (c) brave (d) God-fearing

2. This paragraph gives us the message that:

- (a) An Arab is superior to non-Arab
(b) All human beings are equal
(c) An Arab is superior to peaceful
(d) All human beings are honest

3. Every Muslim is a _____ to every Muslim.

- (a) friend (b) brother (c) companion (d) relative

4. The synonym of the word "legitimate" is:

- (a) unlawful (b) superior
(c) powerful (d) lawful

5. Tick the correct statement according to the paragraph.

- (a) An Arab has a superiority over a non-Arab
(b) The Muslims constitute one nation
(c) In Islam superiority lies in piety
(d) Every Muslim is a stranger to other Muslim

6. The group in which all the words are common nouns, is:

- (a) Boy, Rich, Abbas, Go
(b) Boy, Girl, City, School
(c) Ali, City, Lahore, Girl
(d) Girl, Boy, Book, Karachi

7. Tick the proper noun used in the following sentence: I went to Karachi by train.

- (a) went (b) to (c) Karachi (d) train

8. The group of words with all common nouns is:

- (a) Body, Mind, Hockey, Recreation
(b) Refresh, mind, energy, popular
(c) Mind, Sports, Busy, Healthy
(d) Hockey, Popular, Busy, Games

9. The group of words with all common nouns is:

- (a) Near, My, beautiful, ceiling
(b) desk, chart, room, map
(c) neat, airy, duster, it
(d) Near, desk, easing, move.

10. The group of words with all proper nouns is:

- (a) Table, chair, school, capital
(b) Tahir, Rawalpindi, Ravi, Punjab
(c) Amina, chair, table, Tahir
(d) bag, table, Rahat, School.

11. The group of words with all Proper nouns is:

- (a) Islamabad, Shahmeer, Ali, Azra
(b) Tail, Jungle, Colour, Fan
(c) Zebra, Black, Angle, Live
(d) Giraffe, Neck, Water, Lion


12. The group of words with all Proper nouns is:

- (a) Ajmal, Jamila, Lahore, Pakistan
(b) Play, Enjoy, Lay, Paint
(c) Hockey, Cricket, Football, Badminton
(d) Jamal, Cricket, Enjoy, Eat

Lesson 2:

Our Villages

ہمارے دیہات



Pre-reading: پڑھنے سے پہلے کی مشق

☆ Look at these illustrations. What do these illustrations refer to?

ان مثالوں کو دیکھیں۔ یہ مثالیں کس کا حوالہ دیتی ہیں؟

Ans. These are about the villages.

جواب: یہ دیہات کے متعلق ہیں۔

☆ Have you ever been to a Pakistani village?

کیا آپ کبھی پاکستانی گاؤں میں گئے؟

Ans: Yes I do.

جواب: جی میں گیا ہوں۔

Translation in Urdu

اردو ترجمہ

Once	Anjum's	father	was	very	tired	of	his	office	work
دس	انجم	فادر	واز	ویری	ٹائرڈ	آف	ہز	آفس	ورک
کے	انجم	والد	گئے تھے	بہت	تھک	کے	اپنے	دفتر	کے کام

English	تلفظ	اردو
Once Anjum's father was very tired of his office work.	دس انجم ز فادر واز ویری ٹائرڈ آف ہز آفس ورک	ایک دفعہ انجم کے والد دفتر کے کام سے بہت تھک گئے تھے۔

He	didn't	know	what	to	do
ہی	ڈڈنٹ	ٹاؤ	دٹ	ٹو	ڈو
وہ	نہیں	جانتے	کہ کیا	کہ	کریں

English	تلفظ	اردو
He didn't know what to do.	ہی ڈڈنٹ ٹاؤ دٹ ٹو ڈو	وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔

His	wife	suggested	him	to	take	a	few	days	leave
ہز	وائف	سجسٹڈ	ہم	ٹو	ٹیک	آ	فیو	ڈیز	لیو
ان کی	بیوی	سجوز دی	ہمیں	نے	دی	ایک	چند	دن	چھٹیاں

from	his	office	and	visit	his	parents	in	Noor Pur	village.
فرام	ہز	آفس	اینڈ	وزٹ	ہز	پیرنٹس	ان	نور پور پورج	
سے	اپنے	دفتر	اور	جائیں	کے پاس	والدین	میں	نور پور گاؤں	

English	تلفظ	اردو
His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parents in Noor Pur village.	ہز وائف سجسٹڈ ٹو ٹیک آ فیو ڈیز لیو فرام دی آفس اینڈ وزٹ ہز پیرنٹس ان نور پور پورج	ان کی بیوی نے تجوز دی کہ دفتر سے چند چھٹیاں کریں اور اپنے والدین کے پاس نور پور گاؤں جائیں۔

He	would be	refreshed	by	living	in	the village
ہی	واپسی	ری فریضہ	ہائے	لوگ	ان	دی وچ
وہ	ہو جائیں گے	تازہ دم		روکر	میں	گاؤں

English
He would be refreshed by living in the village.
اردو
گاؤں میں روکر تازہ دم ہو جائیں گے۔
تلفظ
ہی وا لہ کسی ری فریضہ ہائے لوگ ان دی وچ

After	a	few	days,	he	would	return	home	quiet
آفر	ا	لیو	ڈیز	ہی	وڈ	ری ٹرن	ہوم	کوائٹ
بعد	ایک	چند	دنوں	وہ	آئیں گے	واپس	گھر	کمی

fresh	to take up	his	work	again
فریش	ٹو ٹیک اپ	ہیز	ورک	اگین
تازہ	کر لیں گے	اپنا	کام	دوبارہ

English
After a few days, he would return home quiet fresh to take up his work again.
اردو
چند دنوں بعد وہ گھر تازہ دم واپس آئیں گے اور وہ بارہ اپنا کام کر لیں گے۔
تلفظ
آفر آ فیو ڈیز ہی وڈ ری ٹرن ہوم کوائٹ فریش ٹو ٹیک اپ ہیز ورک اگین

The next	day,	Anjum's	father	reached	the beautiful	village.
دی نیکسٹ	ڈے	انجمز	فادر	ریچڈ	دی بیوٹی فل	ویلیج
اگلے	دن	انجم کے	والد	پہنچ گئے	خوبصورت	گاؤں

Noor Pur,	situated	on	the bank	of	a	canal
نور پور	سچولڈ	آن	دی بینک	آف	آ	کینال
نور پور	واقع تھا	پ	کنارے	کے	ایک	نہر

English
The next day, Anjum's father reached the beautiful village, Noor Pur, situated on the bank of a canal.
اردو
اگلے دن انجم کے والد نہر کے کنارے واقع گاؤں نور پور پہنچ گئے۔
تلفظ
دی نیکسٹ ڈے انجمز فادر ریچڈ دی بیوٹی فل ویلیج نور پور سچولڈ آن دی بینک آف آ کینال

His	parents	were	overjoyed	to	see	him
ہیز	پینٹس	ور	اور جوائنڈ	ٹو	سی	ہم
ان کے	والدین	ہوئے	خوش	کر	دیکھ	انہیں

English
His parents were overjoyed to see him.
اردو
ان کے والدین انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔
تلفظ
ہیز پینٹس ور اور جوائنڈ ٹو سی ہم

His	other	relatives	also	gathered	to	welcome	him.
ہیز	آدر	ریلیٹوز	آل سو	گیدرڈ	ٹو	ویلکم	ہم
ان کے	دوسرے	رشتہ دار	بھی	جمع	کے لیے	خوش آمدید کہنے	انہیں

English
His other relatives also gathered to welcome him.
اردو
ان کے دوسرے رشتہ دار بھی انہیں خوش آمدید کہنے کے لئے جمع تھے۔
تلفظ
ہیز آدر ریلیٹوز آل سو گیدرڈ ٹو ویلکم ہم

A village	is	a peaceful,	calm	and	quiet	place
آویج	از	آہیںٹل	کام	اینڈ	کوایت	ٹیس
ایک گاؤں	ہے	ایک پرسکون	پرامن	اور	ٹل ٹیس	جگہ ہوتی

In	a village,	life	is	refreshing	and	inspiring	as
ان	آویج	لائف	از	ری فریشنگ	اینڈ	انس پائرنگ	ایز
میں	گاؤں ایک	زندگی	ہے	تازہ دم	اور	متاثر کن	کیوں کہ

there	is	no	noise	and	rush	of	traffic
دیر	از	نو	نوائز	اینڈ	رش	آف	ٹریفک
وہاں	ہے	نہیں	شور	اور	جھوم	کا	ٹریفک

English	تلفظ	اردو
A village is a peaceful, calm and quiet place. In a village, life is refreshing and inspiring as there is no noise and rush of traffic.	آویج اڈا آہیں ٹل، کام اینڈ کوائٹ پلس۔ ان آویج لائف اڈری فریشنگ اینڈ انس پائرنگ ایز دیر اڈو نوائز اینڈ رش آف ٹریفک	ایک گاؤں ہڈا امن، پرسکون اور شور سے پاک جگہ ہوتی ہے۔ گاؤں میں زندگی تازہ دم اور متاثر کن ہے کیوں کہ وہاں شور اور ٹریفک کا جھوم نہیں۔

Pakistan	is	a land	of	villages.	Almost	70%	of	our
پاکستان	از	آ لینڈ	آف	ویلیجز	آل موٹ	70%	آف	اڈر
پاکستان	ہے	سر زمین	کی	دیہاتوں	تقریباً	70%	کا	ہماری

total	population	lives	in	villages.	The population	of	a	big	village
ٹوٹل	پاپولیشن	لیوز	ان	ویلیجز	دی پاپولیشن	آف	آ	بگ	ویلیج
کل	آبادی	رہتا ہے	میں	دیہاتوں	آبادی	کی	ایک	بڑے	دیہات

may	go	to	5000	or	6000,	but	a	small	village	usually
ہے	کو	نو	5000	آر	6000	بٹ	آ	سال	ویلیج	یوٹیل
تک	ہوسکتی	سے	5000	یا	6000	لیکن	ایک	چھوٹے	دیہات	تقریباً

has	a	population	of	about	2000	people	or	less
ہیز	آ	پاپولیشن	آف	اہاؤٹ	2000	پی پل	آر	لیس
رکھتا ہے	ایک	آبادی	کی	اس سے	2000	افراد	یا	کم

English	تلفظ	اردو
Pakistan is a land of villages. Almost 70% of our total population lives in villages. The population of a big village may go to 5000 or 6000, but a small village usually has a population of about 2000 people or less.	پاکستان اڈا لینڈ آف ویلیجز۔ آل موٹ 70% آف اڈر ٹوٹل پاپولیشن لیوز ان ویلیجز۔ دی پاپولیشن آف آ بگ ویلیج مای گو ٹو 5000 آر 6000، بٹ آ سمال ویلیج یوٹیل ہیز آ پاپولیشن آف اہاؤٹ 2000 پی پل آر لیس۔	پاکستان دیہاتوں کی سر زمین ہے ہماری کل آبادی کا تقریباً 70% فی صد حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے ایک بڑے دیہات کی آبادی 5000 سے 6000 افراد تک ہوسکتی ہے۔ لیکن ایک چھوٹے دیہات میں تقریباً 2000 یا اس سے کم افراد رہتے ہیں۔

While Reading:

Q: Identify the topic sentence in this paragraph.

Ans: A village is a peaceful, calm and quiet place as there is no noise and rush of Traffic.

جواب: گاؤں ایک پرسکون جگہ ہے جہاں شور اور ٹریفک کا جھوم نہیں ہوتا ہے۔

پڑھنے کے دوران:

ہڈا آگراف میں عنوان کی شناخت کریں۔

The villagers	live	in	simple	houses.
دی و بجز	یو	ان	سہل	ہاؤسز
دیہاتی	رہتے ہیں	میں	سادہ	گھروں

English	تلفظ	اردو
The villagers live in simple houses.	دی و بجز دیوان سہل ہاؤسز	دیہاتی سادہ گھروں میں رہتے ہیں۔

Every	village	has	a masjid	where	people	offer	prayers
ایوری	دیج	ہیز	آ مسجد	دیر	پی پل	آفر	پریئرز
ہر	گاؤں	ہوتی ہے	میں مسجد	جہاں	لوگ	ادا کرتے ہیں	نمازیں

English	تلفظ	اردو
Every village has a masjid where people offer prayers.	ایوری دیج ہیز آ مسجد دیر پی پل آفر پریئرز۔	ہر گاؤں میں مسجد ہوتی ہے جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔

Some	of	the smaller	villages	do not	have	electricity.
سم	آف	دی سائر	ولہجز	ڈونٹ	ہیو	الیکٹریٹی
کچھ	کا	چھوٹے	دیہاتوں	نہیں	ہے	بجلی

English	تلفظ	اردو
Some of the smaller villages do not have electricity.	سم آف دی سائر ولہجز ڈونٹ ہیو الیکٹریٹی	کچھ چھوٹے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے۔

The villagers	have	green	trees	in	and	around	their	houses.
دی و بجز	ہیو	گرین	ٹریز	ان	اینڈ	اراؤنڈ	دیر	ہاؤسز
دیہاتیوں	ہوتے ہیں	سبز	درخت	میں	اور	کے ارد گرد	اپنے	گھروں

English	تلفظ	اردو
The villagers have green trees in and around their houses.	دی و بجز دیو گرین ٹریز ان اینڈ اراؤنڈ دیر ہاؤسز	دیہاتیوں کے گھروں کے اندر اور ارد گرد درخت ہوتے ہیں۔

The trees	provide	shady	sitting	places	in	the summer	afternoons.
دی ٹریز	پرووائڈ	شیڈی	سٹنگ	پلیسز	ان	دی سر	آفٹرنون
درخت	فراہم کرتے	سایہ	بیٹھنے کے لیے	جگہیں	میں	گرمیوں	کی دوپہر

English	تلفظ	اردو
The trees provide shady sitting places in the summer afternoons.	دی ٹریز پرووائڈ شیڈی سٹنگ پلیسز ان دی سر آفٹرنون	گرمیوں میں دوپہر کے بعد درخت بیٹھنے کے لیے سایہ فراہم کرتے ہیں

While Reading:

Q: What kind of life do the villagers live?

Ans: They live a simple life.

پڑھنے کے دوران:
دیہاتی کیسی زندگی بسر کرتے ہیں؟
جواب: وہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔

Usually	a	small	villages	does not	have	a hospital,	high	school	and	post office.
یوٹلی	آ	سماں	دیج	ڈونٹ	ہیو	آہسپتال،	ہائی	اسکول	اینڈ	پوسٹ آفس
عام طور		چھوٹے	دیہاتوں	نہیں	ہوتے	ایک ہسپتال،	ہائی	اسکول	اور	ڈاک خانہ

English	تلفظ	اردو
Usually a small villages does not have a hospital, high school and post office.	یو پی آسٹل و سچ ڈرائٹ ہیو ہو گا ٹیل، ہائی اسکول اینڈ پوسٹ آفس	عام طور پر چھوٹے دیہاتوں میں ہسپتال، ہائی اسکول اور ڈاک خانہ نہیں ہوتے۔

High schools	are	in	nearby	towns	and	bigger	villages
ہائی اسکولز	آر	ان	نیمبر ہائے	ٹاؤنز	اینڈ	بگر	دیہاتوں
ہائی اسکول	ہوتے ہیں	میں	نزدیکی	قصبوں	اور	بڑے	دیہاتوں

English	تلفظ	اردو
High schools are in nearby towns and bigger villages.	ہائی اسکولز آر ان نیمبر ہائے ٹاؤنز اینڈ بگر وچ	ہائی اسکول نزدیکی قصبوں میں اور بڑے دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔

Mostly	people	living	in	far off	villages	are	not	educated
موسٹی	پیپل	لوگ	ان	فار آف	دیہاتوں	آر	ناٹ	ایجوکیٹڈ
زیادہ تر	لوگ	رہتے	میں	دور دراز	دیہاتوں	ہوتے	نہیں	پڑھے لکھے

English	تلفظ	اردو
Mostly people living in far off villages are not educated.	موسٹی پیپل لوگ ان فار آف وچ آر ناٹ ایجوکیٹڈ	دور دراز دیہاتوں میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔

A teacher	of	the village	primary school	takes care	of
آئیچر	آف	دی وچ	پرائمری اسکول	ٹیکس کیئر	آف
استاد	کے	گاؤں	پرائمری اسکول	خیال رکھتا	کا

the postal	needs	of	the villagers
دی پوسٹل	نیڈز	آف	دی وچرز
ڈاک	ضروریات	کی	گاؤں

English	تلفظ	اردو
A teacher of the village primary school takes care of the postal needs of the villagers.	آئیچر آف دی وچ پرائمری اسکول ٹیکس کیئر آف دی پوسٹل نیڈز آف دی وچرز	گاؤں کے پرائمری اسکول کا استاد دیہاتوں کی ڈاک کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔

He	also	reads	and	writes	letters	for	them.
ہی	آل سو	ریڈز	اینڈ	رائٹس	لیٹرز	فار	ڈیم
وہی	بھی	پڑھتا ہے	اور	لکھتا ہے	خط	کے لئے	ان

English	تلفظ	اردو
He also reads and writes letters for them.	ہی آل سو ریڈز اینڈ رائٹس لیٹرز فار ڈیم	وہی ان کے لئے خطوط لکھتا ہے اور پڑھتا بھی ہے۔

While Reading:

Q: What are the postal needs of the villagers?

Ans: Their postal needs are to read and write letters.

پڑھنے کے دوران:
گاؤں والوں کو ڈاک کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: ان کی ضرورت خط لکھنا اور پڑھنا ہے۔

Most	of	the villages	have	only one	or	two	wells.	Village	women
موسٹ	آف	دی وچرز	ہیو	اڈنلی ون	آر	ٹو	ویلز	وچ	دو مین
زیادہ تر	کے	دیہات	ہوتے ہیں	صرف ایک	یا	دو	کنویں	دیہاتی	عورتیں

do	the tiresome	duty	of	fetching	water	from	these	wells.
ڈو	دی تائزسم	ڈیوٹی	آف	فچنگ	واٹر	فرام	دیز	ویلز
کرتیں	مشقت والا	کام	کی	لانے	پانی	سے	ان	کنوؤں سے

English	تلفظ	اردو
Most of the villages have only one or two wells. Village women do the tiresome duty of fetching water from these wells.	موسٹ آف دی ویلاجز ہیو اوئی ون آر ٹو ویلز۔ ویج وو مین ڈو دی تائزسم ڈیوٹی آف فچنگ واٹر فرام دیز ویلز	زیادہ تر دیہاتوں میں صرف ایک یا دو کنوئیں ہوتے ہیں۔ دیہاتی عورتیں ان کنوؤں سے پانی لانے کی مشقت کا کام کرتی ہیں۔

They	also	work	with	their	male family members	in	the fields.
دے	آل سو	ورک	وڈ	دیر	میل فیملی ممبرز	ان	دی فیلڈز
وہ	بھی	کام کرتی ہیں	کے ساتھ	اپنے	فیملی کے مردوں	میں	کھیتوں

English	تلفظ	اردو
They also work with their male family members in the fields.	دے آل سو وڈ دیر میل فیملی ممبرز ان دی فیلڈز	وہ اپنے مردوں کے ساتھ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں۔

Men	are	mostly	farmers	who	do	the work	of
مین	آر	موسٹی	فارمرز	ہو	ڈو	دی ورک	آف
مرد	ہیں	زیادہ تر	کسان	جو	کرتے ہیں	کام	کا

sowing	growing	and	harvesting	crops.
سواگ	گرواگ	اینڈ	ہارویسٹ انگ	کراپس
بونے،	اگانے	اور	کاٹنے	فصلیں

English	تلفظ	اردو
Men are mostly farmers who do the work of sowing, growing and harvesting crops.	مین آر موسٹی فارمرز ہو ڈو دی ورک آف سواگ گرواگ اینڈ ہارویسٹ انگ کراپس۔	زیادہ تر مرد کسان ہیں جو فصلیں بونے، اگانے اور کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔

It	is	altogether	a	hard	and	tiresome	work.
اٹ	از	آل ٹوگیڈر	آ	ہارڈ	اینڈ	تائزسم	ورک
یہ	ہے	سب ملا کر	ایک	مشکل	اور	تھکا دینے والا	کام

English	تلفظ	اردو
It is altogether a hard and tiresome work.	اٹ از آل ٹوگیڈر آ ہارڈ اینڈ تائزسم ورک	یہ سب ملا کر ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔

پڑھنے کے دوران:
 دیہاتیوں کی روزمرہ معمولات کیا ہیں؟
 جواب: وہ پانی لاتے اور کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔

While Reading:
 Q: What is the daily routine of the villagers?
 Ans: They fetch water and work in fields.

A village	has	a rural	health centre	where	patients
آوچ	ہیز	آرورل	ہیلتھ سنٹر	دیر	پے شنٹس
ایک گاؤں	رکھتا ہے	دیہاتی	ایک صحت کا مرکز	جہاں	مریضوں

are	checked	and	given	medicines
آر	چیکڈ	ایڈ	کون	میڈیسنز
ہوتا ہے	معائنہ	اور	دی جاتی ہے	دوائی

English
A village has a rural health centre where patients are checked and given medicines.

اردو
گاؤں میں ایک دیہاتی صحت کا مرکز ہوتا ہے جہاں مریضوں کا معائنہ ہوتا ہے اور ادویات دی جاتی ہیں۔

A village	normally	has	small shops	situated	here	and	there
آدج	تاری	ہیز	سال شاہس	پھوانیڈ	ہیر	ایڈ	دیر
ایک دیہات	میں عام طور پر	ہوتی ہیں	چھوٹی دکانیں	قائم	ادھر	اور	ادھر

For shopping	in	bulk	the villagers	have	to go to	the nearest	town
فار شاپنگ	ان	ہلک	دی ویلجرز	ہیو	ٹو گو ٹو	دی نیئر یسٹ	ٹاؤن
خریداری کے لیے	میں	زیادہ	دیہاتیوں	ہے	جانا پڑتا	قریبی	ٹاؤن

English
A village normally has small shops situated here and there. For shopping in bulk, the villagers have to go to the nearest town.

اردو
ایک دیہات میں عام طور پر ادھر ادھر چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اور زیادہ خریداری کے لیے دیہاتیوں کو قریبی ٹاؤن میں جانا پڑتا ہے۔

The village 'Panchayat'	works	For	the welfare	of	the villagers	and	
دی ویلج	پنچائیت	ورکس	فار	دی ویلفیئر	آف	دی ویلجرز	ایڈ
گاؤں کی	پنچائیت	کام کرتی	کے لیے	فلاح و بہبود	کی	دیہاتیوں	اور

looks	after	the needs	of	the people.
لکس	آفٹر	دی نیڈز	آف	دی پیپل
خیال	رکھتی ہے	ضرورت	کی	لوگوں

English
The village 'Panchayat' works for the welfare of the villagers and looks after the needs of the people.

اردو
گاؤں کی پنچائیت دیہاتیوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتی ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔

It	helps	the villagers	by	settling	their	disputes.
اٹ	ہیلپس	دی ویلجرز	ہائے	سیٹلنگ	دیر	ڈسپوٹس
یہ	مدد کرتی ہے	دیہاتیوں		ختم کرنے	ان کے	جھگڑے

English
It helps the villagers by settling their disputes.

اردو
یہ دیہاتیوں کے جھگڑے ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

It	also	helps	in	improving	their	working	and	living	conditions
اٹ	آل سو	ہیلپس	ان	ایمر ویگ	دیر	ورکنگ	ایڈ	لویگ	کنڈیشنز
یہ	بھی	مدد کرتی ہے	میں	بہتر	ان	کے کام	اور	زندگی	کی حالت

English
It also helps in improving their working and living conditions.

اردو
یہ ان کے کام اور زندگی کی حالت بہتر کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔

While Reading:

Q: What does the Panchayat do for the villagers?

Ans: It helps to fulfill their needs and settle their disputes.

پڑھنے کے دوران:
پنجائت دیہاتوں کے لئے کیا کرتی ہے؟

جواب: یہاں کی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور ان کے جھگڑوں کو ختم کرتی ہے۔

On	the whole,	the villagers	are	simple	people.
آن	دی ہول	دی ولجرز	آر	سہل	پی پل
یہ کہ	مختصر	دیہاتی	ہیں	سادہ	لوگ

English
On the whole, the villagers are simple people.
مختصر یہ کہ دیہاتی سادہ لوگ ہیں۔ آن دی ہول، دی ولجرز آر سہل پی پل

They	live	like	a	family.
دے	لو	لائک	آ	میلی
وہ	رہتے ہیں	کی طرح	ایک	کنبہ

English
They live like a family.
وہ ایک کنبہ کی طرح رہتے ہیں۔ دے لو لائک آ میلی

They	share	each	others	joys	and	sorrows.
دے	شمیر	ایچ	آرز	جوائےز	اینڈ	ساروز
وہ	ہانتے ہیں	ایک	دوسرے	کی خوشیاں	اور	دکھ

English
They share each others joys and sorrows.
وہ ایک دوسرے کی خوشیاں اور دکھ ہانتے ہیں۔ دے شمیر ایچ آرز جوائےز اینڈ ساروز

Our	villagers	have	retained	their	old traditions	and	customs.
آؤر	دیہتوں	ہو	ری ٹینڈ	دیئر	اولڈ ٹریڈیشنز	اینڈ	کسٹمز
ہمارے	دیہاتوں	رکھا ہوا ہے	برقرار	اپنے	پرانی رسوم	اپنے	رداج

English
Our villagers have retained their old traditions and customs.
ہمارے دیہاتوں نے اپنے پرانے رسم و رواج کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ آؤر ولجرز ہیور ری ٹینڈ دیئر اولڈ ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز

Anjum's	father	enjoyed	his	stay	with	his	parents.
انجم	فادر	انجوائڈ	ہز	سٹے	وڈ	ہز	پینٹس
انجم	کے والد	لطف اندوز ہوئے	اپنے	قیام	کے ساتھ	اپنے	والدین

English
Anjum's father enjoyed his stay with his parents.
انجم کے والد اپنے والدین کے ساتھ قیام میں لطف اندوز ہوئے۔ انجم فادر انجوائڈ ہز سٹے وڈ ہز پینٹس

He	came back	to	his	home	fully	refreshed.
ہی	کیم بیک	ٹو	ہز	ہوم ٹلی	گھر مل	ری فریشڈ
وہ	واپس آئے	کو	اپنے	گھر	میں	تازہ دم

English
He came back to his home fully refreshed.
وہ اپنے گھر میں تازہ دم واپس آئے۔ ہی کیم بیک ٹو ہز ہوم ٹلی ری فریشڈ

Vocabulary

ذخیرہ الفاظ

A Match the words in column 'A' with their meaning in column 'B'.

کالم A کے الفاظ کے معانی کالم B کے ساتھ ملائیں۔

A	B
fodder چارہ	neighbourhood of an area
loans قرضہ	material for burning
population آبادی	Inhabitants of village, town, city or country etc.
surrounding گرد و نواح	food for cattle.
fuel ایجن	money given to be returned over a period of time.

B Consult a thesaurus and find the synonyms of the following words:

لفظ کے حوالہ سے درج ذیل کے مترادف تلاش کریں۔

exchange	تبادلہ	interchange, commute, replace
produce	پیدا کرنا	bring forth, create, make
pollution	آلودگی	contamination, defilement, befoulment
customs	رواج	traditions, usage, habitual practices

Reading Comprehension پڑھ کر سمجھنا

A Read paragraph 3 of the lesson and identify:

سبق کا ہیڈ اگر آف 3 پڑھیں اور شناخت کریں۔

Topic sentence	⇒	عنوان
Supporting details (examples):	⇒	امدادی تفصیل

topic sentence عنوانی جملہ	A village is a peaceful, calm and quiet place. گاؤں ایک پرسکون اور خاموش جگہ ہے۔
-------------------------------	---

supporting details (examples)
معاون تفصیل (مثالیں)

Life is fresh there because of no noise and traffic pollution.

یہاں زندگی تروتازہ ہوتی ہے کیونکہ شور و راز اور ٹریفک کی آلودگی نہیں ہوتی۔

Most of the people live in villages.

زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔

B Answer the following questions.

مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔

1. Why do we call Pakistan a land of villages?

پاکستان کو دیہاتوں کی سرزمین کیوں کہتے ہیں؟

Ans. We call Pakistan a land of villages because 70% of its population live in villages.

جواب: پاکستان کو دیہاتوں کی سرزمین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی 70 فیصد آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔

2. What is usually the population of a small village?

عام طور پر چھوٹے دیہاتوں کی آبادی کتنی ہوتی ہے؟

Ans. Mostly small villages have less than 2000 people.

جواب: زیادہ تر دیہاتوں کی آبادی 2000 سے کم ہے۔

3. What facilities are available in our villages?

ہمارے دیہاتوں میں کون سی سہولیات میسر ہیں؟

Ans. Green and shady trees, fresh vegetables, healthy environment and peaceful life without noise are available in our villages.

جواب: ہمارے گاؤں میں سبز اور سایہ دار درخت، تازہ سبزیاں، صحت مند ماحول اور شور کے بغیر پرسکون زندگی دستیاب ہیں۔

4. Why is it better to live in healthy environment?

ایک صحت بخش ماحول میں رہنا کیوں بہتر ہے؟

Ans. It is said that healthy body has a healthy mind. Only fresh and pure environment can keep a man mentally and physically fit. So, it is better to live in healthy environment.

جواب: کہا جاتا ہے کہ صحت مند جسم صحت مند دماغ رکھتا ہے۔ صرف تازہ اور خالص ماحول ہی انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر توانا رکھ سکتا ہے۔ اس لیے صحت مند ماحول میں رہنا بہتر ہے۔

5. Where would you like to live and why?

آپ کہاں رہنا پسند کریں گے اور کیوں؟

Ans. I would like to live in village because there is no pollution.

جواب: میں گاؤں میں رہنا پسند کروں گا کیونکہ وہاں آلودگی نہیں ہوتی۔

6. How do the villagers retain old traditions and customs?

دیہاتی لوگ کس طرح اپنے پرانے رسم و رواج برقرار رکھتے ہیں۔

Ans. The villagers are still practising their old traditions and attached with them, that's why they do not adopt the modern tradition and still followings their old traditions and still retain their old traditions.

جماب: دیہاتی لوگ اب بھی اپنے پرانے رسم و رواج کی مشق کر رہے ہیں اور ان سے جڑے ہیں اسی لیے وہ جدید رواج نہیں اپناتے اور ابھی بھی پرانے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے پرانے رسم و رواج کو برقرار رکھتے ہیں۔

Tick (✓) the correct option to fill in the blanks in each statement.

1. About _____ percent of our total population lives in villages:
- (a) forty (b) fifty (c) sixty (d) seventy
2. The population of our large villages is about _____ thousand:
- (a) three (b) five (c) seven (d) eight
3. The main occupation of the villagers is:
- (a) mining (b) cutting woods
(c) rearing cattle (d) farming
4. Village women _____:
- (a) fetch water (b) only do household work
(c) work in factories (d) work in the fields
5. The 'Panchayat' works for the _____ of the people:
- (a) health (b) education
(c) welfare (d) house construction

لغات کی مہارتیں Dictionary Skills

A dictionary is a collection of words in one or more specific languages listed alphabetically, with usage, definitions, pronunciation and other information.

لغت ایک یا ایک سے زیادہ زبانوں میں الفاظ کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ جنہیں حروفِ گہی کے اعتبار سے تحریر کیا جاتا ہے اور ساتھ لفظوں کا استعمال، تعریض اور تلفظ اور دوسری معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟ Do you Know?

لغت کیا ہے؟
What is a dictionary?
Ans. A dictionary is a collection of words in one or more specific languages listed alphabetically, with usage, definitions, pronunciation and other information.

لغت ایک یا ایک سے زیادہ زبانوں میں الفاظ کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ جنہیں حروفِ گہی کے اعتبار سے تحریر کیا جاتا ہے اور ساتھ لفظوں کا استعمال، تعریض اور تلفظ اور دوسری معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔

کیا آپ نے پہلے لغت استعمال کی؟
Have you used a dictionary before?
Ans. Yes, I have used a dictionary before.

جی ہاں میں پہلے لغت استعمال کر چکا ہوں۔

لغت میں الفاظ کی ترتیب کیسے ہوتی ہے؟
How are words arranged in a dictionary?
Ans. Words are arranged alphabetically in a dictionary.

لغت میں الفاظ حروفِ گہی کے اعتبار سے ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں۔

Acid
Acid / aɪd / 0 verb (acheid, aching) / 1 to feel a dull continuous pain. 2 to be the source of a dull continuous pain. 9 noun a dull continuous pain. * aching or achy adj (acheid, aching).
achieve / ə'tʃi:v / 0 verb (achieved, achieving) 1 to reach, realize or attain (a goal, ambition, etc), especially through hard work. 2 to earn or gain (a reputation, etc). 3 to be successful. * achievable adj. * achiever noun.
achievement / ə'tʃi:vmənt / 0 noun 1 the gaining of something, usually after working hard for it. 2 something that has been done or gained by effort.
achievement age / ə'tʃi:vmənt eɪʒ / 0 noun the level of an individual's educational achievement as determined by comparing his or her score in a test with the average score of other people of the same age.
aching and achy see under ACHIEVE.
achromatic / ə'krɒm:ətɪk, ə- / 0 adj 1 without colour. 2 said of a lens: capable of transmitting light without separating it into its constituent colours. * achromatically adverb.

Acid rock
13
* achromatically / ə'krɒm:ətɪk / 0 adj 1 without colour. 2 said of a lens: capable of transmitting light without separating it into its constituent colours. * achromatically adverb.
acid / 'aɪd / 1 noun 1 chem any of a group of compounds that have a sour or sharp taste, turn blue litmus paper red, and react with bases to form salts. 2 any sour substance. 3 slang L.A. adj 1 sour in taste. 2; said of someone: expressing bitterness or anger. 3 said of soil, etc: having its acid reaction. 4 chem containing or having the properties of an acid. 5 pop music relating to acid. noun * acidity adverb. * put the acid on someone Austral & NZ colloq to provoke them.
acid drop / 'aɪd drɒp / 0 noun a sweet flavoured with tartaric acid.
acid-head / 'aɪd heɪd / 0 noun, derog taking along someone who takes hallucinogenic drugs.
acidic / 'aɪdɪk / 0 adj like, or containing, acid.
acidity / 'aɪdɪtɪ / 0 noun (acidity) 1 the quality of being acid or sour. 2 chem the extent to which a given solution is acid, as indicated by its pH value.
acid rock / 'aɪd rɒk / 0 noun a type of rock music featuring bizarre electronic and instrumental effects.

رہنما الفاظ Guide words

There are two boldfaced guide words at the top of each page. Guide words help you find the word you want to look up. The guide word on the right shows the last entry on that page.

ہر صفحہ کے اوپر دو رہنما الفاظ دیئے جاتے ہیں۔ رہنما الفاظ آپ کے مطلوبہ لفظ کو دیکھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ دائیں جانب اوپر جو رہنما لفظ ہے وہ اس صفحہ میں موجود آخری لفظ کو دکھاتا ہے اظاہر کرتا ہے۔

لغت الفاظ Entry words

An entry word is the word that you look up in the dictionary. Entry words are printed in bold and they are listed in alphabetical order.

انٹری ورڈ اس لفظ کو کہتے ہیں جو آپ لغت میں دیکھتے ہیں۔ انٹری ورڈ کو موٹے حروف میں لکھا جاتا ہے اور یہ حروف گہی کے اعتبار سے دیئے جاتے ہیں۔

- D** Identify guide words and entry words in the sample dictionary page.
مسئلے کے طور پر لغت کا صفحہ لیں اور اس میں entry اور guide word کی پہچان کریں۔
- E** Give both the guide words on the following pages of your dictionary.
اپنے لغت کے مندرجہ ذیل صفحات پر دیئے گئے دونوں رہنما الفاظ لکھیں۔

Page No.	Guide Words	
15	Administer	Advantage
	تعمیر و نوس چلانا، نافذ کرنا	فائدہ، فوقیت، مفاد
37	Arid	Arrant
	خشک، بخر، بے لطف	بالکل، برا، پر لے درجہ کا

62	Blinder ہاندھنے والا، جلد سار	Blvalve دو دروازے، کھولنا
85	Century سوسالہ صدی کا	Challengo لکار، دعوئی کرنا
110	Contrary برعکس	Convert تبدیل، مذہب تبدیل کرنا

F Find the meaning of the following words in the dictionary.

لغت کے اندر مندرجہ ذیل الفاظ کے معانی تلاش کریں۔
prime, vivid, cluster, bamboo, scrape, rescue, global, shatter, orchard, leisure

معانی	تلفظ	الفاظ	معانی	تلفظ	الفاظ
صاف	وائیوڈ	Vivid	عمدہ	پرائم	Prime
ہانس	بنبو	Bamboo	مجموعہ	کلستر	Cluster
بچانا	ریسکیو	Rescue	کھرچنا	سکرپ	Scrape
پاش پاش	شٹر	Shatter	بین الاقوامی	گلوبل	Global
فارغ وقت	لیسر	Leisure	باغ	آرچڈ	Orchard

Grammar

تواند

Linking verbs

Linking verbs do not express action but connect the subject and verb to give more information.

A verb, such as a form of be or seem, that joins the subject of a sentence to a complement is called linking verb.

For example:

Saima looks happy.

some Linking Verbs are: be, look, feel, smell, prove, go, run, resemble, appear, seem etc.

منسلک افعال کسی کام کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ یہ قائل اور فعل کو ملاتے ہیں جس سے مزید معلومات ملتی ہیں۔

ایک فعل جیسے کہ poor وغیرہ جو قائل کو جملے سے ملاتا ہے منسلک فعل کہلاتا ہے۔

مثال: see- appear- resemble- run- go- prove-smell- feel-look, be- وغیرہ ہیں۔

A Complete the following sentences by filling in the linking verbs.
منسلک فعل کے ذریعے درج ذیل جملوں کو مکمل کریں۔

No.	Statement	Word
1.	The villagers _____ in simple houses.	live
2.	Ahmad _____ better now after his recent illness.	feels
3.	It _____ the villagers by settling their disputes.	helps
4.	Yaqub's younger brother _____ him.	resembles
5.	The Panchayat _____ for the welfare of the villagers.	works
6.	My parents _____ very happy.	look
7.	Hopes _____ true.	come
8.	Sumaira _____ tired.	feels

Preposition

A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to any other word of the sentence.

حروف جار ایک لفظ ہے جو نام سے پہلے لکھا جاتا ہے یا اسم اشارہ سے پہلے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جملے کے دوسرے الفاظ سے اس کا کیا تصور ہے۔

For example: مثال کے طور پر

She is fond of reading books. وہ کتابیں پڑھنے کی شوقین ہے۔

The sky is above our head. آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے۔

Arif lives with his parents.

عارف اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔

He goes to school daily.

دوروزانہ سکول جاتا ہے۔

B Fill in the blanks with correct preposition.

درج ذیل کو درست حروف جار سے پُر کریں۔

No.	Statement	Word
1.	The cows are _____ the field.	in
2.	You should stand _____ her.	by
3.	He killed the snake _____ a stick.	with
4.	I know nothing _____ him.	about
5.	The dog jumped _____ the car.	over
6.	China is _____ the north of Pakistan.	in

Compound Prepositions

مرکب حروف جار

Compound Prepositions are formed by prefixing a preposition to a Noun, an Adjective or an Adverb.

مرکب حروف جار اسم، صفت یا فعل متعلق کے ساتھ مل کر بنتے ہیں

مرکب حروف جار: اسم، صفت یا فعل متعلق کے ساتھ ملانے سے بنتے ہیں۔

For example: Across (on + cross), Along (on + long), Behind (by + hind), Beneath (be + neath), Beside (by + side), Underneath (under + neath)

For example:

There is a bridge across the river.

دریا کے آ پار ایک پل ہے۔

He is walking along the road.

وہ سڑک پر چل رہا ہے۔

The treasure lies beneath the rock.

خزانہ چٹان کے نیچے دبا ہے۔

He is hiding behind the tree.

وہ درخت کے پیچھے چھپ رہا ہے۔

She is sitting beside me.

وہ میرے ساتھ بیٹھ رہی ہے۔

C Fill in the blanks with compound prepositions.

درج ذیل کو مرکب حروف جار سے پُر کریں۔

No.	Statement	Word
1.	The Earth revolves _____ the Sun.	around
2.	He knows English _____ Urdu.	besides
3.	Divide the apples _____ the two sisters.	between
4.	There is a village _____ the hill.	behind
5.	A stranger was walking _____ the pathway of my house.	along
6.	We cannot live _____ water.	without
7.	It helps the villagers by settling the disputes _____ them.	among

D Make five sentences using compound prepositions.

مجموعہ حروف جار کا استعمال کر کے پانچ جملے بنائیں

1. Aslam lives across the river.
2. We cannot write without a pencil.
3. There is enmity between the two brother.
4. He parks the car behind the shop.
5. The book lies beneath the bag.

Writing Skills لکھنے کی مہارتیں


A Look at the pictures and write a

paragraph of about ten lines.

تصویریں دیکھیں اور دس سطروں کا ایک پیرا گراف لکھیں

(Use Present Continuous Tense).

سادہ فعل حال جاری استعمال کریں۔



Ans. A village is a peaceful and beautiful place to live in. Almost 70% of the total population of Pakistan lives in villages. Most of the villagers are farmers. They work in the fields. They grow and harvest the crops. There are trees and fields everywhere in a village. The women also spend a very hardworking life in the villages. They have to fetch water from wells. Sometimes, they also have to work in the fields. In short, the villagers spend a very active and hardworking life.

B Write a paragraph of 60-70 words on 'My Village'. Make a mind map to develop the paragraph.

ذہنی ترتیب سے میرا گاؤں کے عنوان سے 60 یا 70 الفاظ کا پیرا گراف لکھیں



Ans. The name of my village is Noorpur. it is situated near Ravi River. There are more than 5000 people living in this village. It has separate Middle Schools for girls and boys. It has a small market, post office, health center and a mosque. There is greenery all around the village. It has Panchayat system. It works for the welfare of the villagers. Mostly people are educated and well mannered. It has almost all the facilities of life. It is a peaceful and beautiful place on the earth.

Oral Communication Skills زبانی گفتگو کی مہارتیں

All: Good morning! Saad.

علی: صبح بخیر

Saad: Good morning! All.

سعید: صبح بخیر

پول کا جزیرہ (رابرٹ لوئس سٹیونسن)

All: Are you going to plant potatoes this year?	مطی! کیا آپ اس سال آلو کی کاشت کریں گے؟
Saad: No, I'm not. I planted potatoes last year.	سعد: نہیں میں نے گزشتہ سال آلو لگائے تھے۔
All: What did your uncle plant last year?	مطی: آپ کے چچا نے گزشتہ سال کیا کاشت کیا؟
Saad: He planted wheat. And your uncle?	سعد: انھوں نے گندم لگائی اور آپ کے چچا نے؟
All: My uncle planted rice last year.	مطی: میرے چچا نے گزشتہ سال چاول لگائے۔
Saad: That's nice.	سعد: بہت اچھا۔
All: OK.	مطی: ٹھیک ہے۔
Saad: Thank you.	سعد: آپ کا شکریہ۔

Group Activity

اجتماعی سرگرمی

Practice this conversation in pairs.

اس گفتگو کی گروپ کی شکل میں مشق کریں۔

Fatima: Where are you going?	فاطمہ: تم کہاں جا رہی ہو؟
Rani: I am going to fetch water from the well.	رانی: میں کنویں سے پانی لینے جا رہی ہوں؟
Fatima: Do you need water badly?	فاطمہ: کیا تمہیں پانی کی شدید ضرورت ہے۔
Rani: Yes, all the pots and pitchers are empty. Yesterday I could not go to the well, because I was ill.	رانی: جی ہاں۔ تمام برتن اور گھڑے خالی ہیں کل میں کنویں کی طرف نہ جا سکی تھی۔ بیماری تھی۔
Fatima: Are you fine now?	فاطمہ: کیا آپ اب ٹھیک ہو؟
Rani: Yes, I am fine now. I can bring out and take water home.	رانی: جی ہاں میں اب ٹھیک ہوں میں پانی لاسکتی ہوں اور گھر لے جا سکتی ہوں۔
Fatima: May I help you?	فاطمہ: کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟
Rani: No, thanks.	رانی: نہیں شکریہ۔

Glossary اصطلاحات

bulk زیادہ	the greater or main part of something, a large quantity
calm خاموشی	silent
custom رواج	accepted way of doing something in a society
dispute جھگڑا	disagreement on some issue.
fetching لانا	going and getting something and bringing back
harvest کٹائی	the act of cutting and gathering crops
Inspiring متاثر کن	exciting and encouraging
population آبادی	number of people living in a place, city or country
refresh تازہ دم	become fresh once again
retain رکھنا	keep, have
rural دیہاتی	of the village
suggested تجویز دینا	given opinion, advised
tiresome تھکا دینے والا	making you feel annoyed
traditions روایت	beliefs, customs or ways of doing something
pollution آلودگی	the adverse effect on the natural environment of a harmful substance
panchayat پنچایت	a body of senior members of a village which works for the welfare of the villagers.

Test Preparation

استحاثی تیاری

☆ Read the given paragraph and answer the question no. 1 - 5.

A village is a peaceful, calm and quiet place. In a village, life is refreshing and inspiring as there

Suggested Reading

تجویز کردہ مطالعہ


Treasure Island by Robert Louis Stevenson

is no noise and rush of traffic. Pakistan is a land of villages. Almost 70% of our total population lives in villages. The population of a big village may go to 5000 or 6000, but a small village usually has a population of about 2000 people or less.

1. "A village is a peaceful, calm and quiet place" means:
 - (a) There is no traffic in village.
 - (b) There is no facilities in village.
 - (c) There is no education and health centre in village.
 - (d) There is no noise and crime in a village
2. Village women do the tiresome duty of fetching water from these wells. "Tiresome" means:
 - (a) difficult (b) easy (c) boring (d) daily routine
3. The profession of most of the villagers is:
 - (a) labour (b) office's work
 - (c) agriculture (d) mechanical
4. In a village, the patients are checked in:
 - (a) Private clinics (b) Rural health care centre
 - (c) Hospitals (d) In panchayat's office
5. The disputes of the villagers are settled by:
 - (a) Panchayat (b) Numberdar
 - (c) Teachers (d) Counselor
6. The old man asked them to come ___ at once.
 - (a) on (b) in (c) of (d) from
7. He fired a shot ___ the air.
 - (a) above (b) in (c) to (d) on
8. But later ___ during the period of three hundred years.
 - (a) on (b) in (c) of (d) from
9. The first computer was invented ___ 1664:
 - (a) from (b) of (c) in (d) on
10. She is going ___ a party:
 - (a) on (b) from (c) to (d) at
11. The boy is cut ___ two pieces:
 - (a) in (b) at (c) from (d) into
12. The rat is sitting ___ the lion.
 - (a) in (b) of (c) near (d) under

13. The hunter was satisfied ___ this answer.
 - (a) with (b) into (c) from (d) to
14. He is taking the hat ___ his head.
 - (a) down (b) of (c) from (d) off
15. It is very ___ from us.
 - (a) for (b) far (c) four (d) fun
16. Kashif works in ___ factory in Karachi.
 - (a) the (b) on (c) a (d) an
17. A stitch ___ time save nine.
 - (a) on (b) at (c) over (d) in
18. A dictionary is a collection of:
 - (a) Words (b) digits (c) numbers (d) figures
19. A dictionary is listed:
 - (a) Horizontally (b) vertically
 - (c) alphabetically (d) digitally
20. The informations given in a dictionary about a word are:
 - (a) usage, defination, pronunciation
 - (b) usage, shape, meanings
 - (c) structure, formula, relation
 - (d) meaning, usage, structure
21. The guide word in a dictionary helps us to find:
 - (a) a word you want to look up
 - (b) find the meaning of words
 - (c) the pronunciation of given word
 - (d) defination of given word
22. The number of guide words is :
 - (a) two (b) Three (c) four (d) five
23. The guide word on the right shows the:
 - (a) first entry of the page
 - (b) middle entry of the page
 - (c) last entry of the page
 - (d) no entry of the page
24. The word that you look up in dictionary is called:
 - (a) guide word (b) entry word
 - (c) good word (d) middle word
25. Every word are always listed in:
 - (a) alphabetical order (b) descending order
 - (c) ascending order (d) zero order

Lesson 3: Eid-ul-Azha



Pre-reading: پڑھنے سے پہلے کی مشق

☆ Look at the illustration and guess what festival it is.
 Ans: It is Eid-ul-Azha.
 ☆ How did you celebrate last Eid-ul-Azha?
 Ans: We celebrated last Eid with extreme devotion of religion.

Urdu Translation

A festival	or	a cultural event	is	a celebration	of
آفیسٹیول	آر	آچرل ایونٹ	اے	آسکا بریشن	آف
ایک تہوار	یا	ثقافتی تقریب	ہے	ایک تقریب	کی
an occasion	to	create	a	sense	of
این اوکیشن	ٹو	کریمٹ	آ	سنس	آف
موقع	کے لیے	پیدا کرنے	ایک	جذبہ	کا
selflessness,	peace	and	sacrifice	among	the people
سیلف لیس نیس	پیس	اینڈ	سیکری فاس	امگ	دی پی پل لوگوں کے
بے غرضی	امن	اور	قربانی	درمیان	

English	تلفظ	اردو
A festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace and sacrifice among the people.	آفیسٹیول آر آچرل ایونٹ اے آسکا بریشن آف این اوکیشن ٹو کریمٹ آ سانس آف برادر ہڈ سیلف لیس نیس، پیس، اینڈ سیکری فاس امگ دی پی پل	تہوار یا ثقافتی موقع لوگوں کے درمیان بھائی بھائی کے لیے ایک موقع کی تقریب ہے۔

The celebrations	allow	the people	to	rejoice	themselves	by leaving
دی سیلبریشنز	الاء	دی پی پل	ٹو	ری جوائس	دیم سیلز	ہائے لیوگ
تقریبات	قابل کرتی ہے	لوگوں	کا	مزمہ لیس	اپنے لیے	چھوڑ کر

the daily routines	which	have made	their	lives	dull	and	boring
دی ڈیلی روٹینز	وج	ہیومیڈ	دیر	لائوز	ڈل	اینڈ	بوریگ
روزمرہ معمولات	جو کہ	والی بنا دیا	جنہوں نے	زندگی کو	بے کیف/بھکی	اور	اکاٹھ والی

English	تلفظ	اردو
The celebrations allow the people to rejoice themselves by leaving the daily routines which have made their lives dull and boring.	دی سیلبریشنز الاء دی پی پل ٹو ری جوائس دیم سیلز ہائے لیوگ۔ دی ڈیلی روٹینز وج ہیومیڈ دیر لائوز ڈل اینڈ بوریگ	تقریبات لوگوں کو اس قابل کرتی ہیں کہ زندگی کا مزہ لیں اور اپنے روزمرہ کاموں سے ہٹ جائیں جنہوں نے ان کی زندگی کو بے کیف اور اکاٹھ والی بنا دیا ہے۔

While Reading:

Q. Identify the topic sentence in this paragraph.

Ans: A festival or a cultural event is a celebration.

پڑھنے کے دوران:
اس پیرا گراف میں موضوعاتی جملے کی شناخت کریں؟
جواب: تہوار یا ثقافتی موقعہ ایک تقریب ہے۔

Different nations of the world have different festivals and cultural events to celebrate.

ڈفرنٹ	نیشنز	آف	دی ورلڈ	ہیو	ڈفرنٹ	فیسٹیوئلز	اینڈ	چھل	ایونٹس	ٹو سیلبرٹ
مختلف	اقوام	کی	دنیا	ہیں	مختلف	تہوار	اور	ثقافتی	مواقع	منانے کے لیے

English	تلفظ	اردو
Different nations of the world have different festivals and cultural events to celebrate.	ڈفرنٹ نیشنز آف دی ورلڈ ہیو ڈفرنٹ فیسٹیوئلز اینڈ چھل ایونٹس ٹو سیلبرٹ۔	دنیا کی مختلف قوموں کے مختلف تہوار اور ثقافتی ہیں جو دو مناتی ہیں۔

Muslims	of	the world	have	two	festivals	which
مسلمز	آف	دی ورلڈ	ہیو	ٹو	فیسٹیوئلز	وج
مسلمان	کے	دنیا	رکتے ہیں	دو	تہوار	جو

are	celebrated	with	great	religious	devotion.
آر	سیلبرٹڈ	وو	گریٹ	رلیجیوس	ڈیووشن
ہیں	منائے جاتے	ساتھ	شدید	مذہبی	عقیدت

English	تلفظ	اردو
Muslims of the world have two festivals which are celebrated with great religious devotion.	مسلمز آف دی ورلڈ ہیو ٹو فیسٹیوئلز جو گریٹ رلیجیوس ڈیووشن سے منائے جاتے ہیں۔	دنیا بھر کے مسلمانوں کے دو تہوار ہیں جو وہی مذہبی عقیدت سے منائے ہیں۔

One	is	known as	Eid-ul-Fitr	while	the other	is	known as	Eid-ul-Azha.
دن	از	نون ایز	عید الفطر	وائل	دی اڈر	از	ناؤن ایز	عید الاضحیٰ
ایک	ہے	جانا جاتا	عید الفطر	جبکہ	دوسرے کو	ہیں	کہتے	عید الاضحیٰ

English	تلفظ	اردو
One is known as Eid-ul-Fitr while the other is known as Eid-ul-Azha.	دن اولون ایز عید الفطر وائل دی اڈر اناؤن ایز عید الاضحیٰ	ایک کو عید الفطر اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

While Reading:

Q. Note the supporting details.

Ans: The Muslims of the world celebrated two events with full devotion.

جواب: دنیا کے مسلمان دو تہوار پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔

When	the Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ)	reached	Madina Munawwarah	after	leaving
دین	دی رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم	رہنچ	مدینہ منورہ	منورہ	آؤنر
جب	رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم	پہنچے	مدینہ منورہ	منورہ	بعد

Makkah Mukarramah,	people	told	him	that	they	used	to	celebrate	two	festivals	every	year.
مکہ مکرمہ	لوگوں	نے	بتایا	تو لوگوں	کہ	ہم	ٹولڈ	ہم	ٹولڈ	ہم	ہم	ہم
مکہ مکرمہ	لوگوں	نے	بتایا	تو لوگوں	کہ	ہم	ٹولڈ	ہم	ٹولڈ	ہم	ہم	ہم

English	تلفظ	اردو
When the Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ) reached Medina Munawwarah after leaving Makkah Mukarramah, people told him that they used to celebrate two festivals every year.	دین دی رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم رہنچ مدینہ منورہ آؤنر لیوگ مکہ مکرمہ۔ پی ٹولڈ ہم دے پورڈ ٹو سیلبرٹ ٹو فیسٹیوئلز ایوری ایئر	جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ سال میں دو تہوار منایا کرتے ہیں۔

The Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)	asked	them	"Should I	give
دی رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	آسکد	وہم	"خڈ	آئی
رسول اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	پوچھا	نے ان سے	کیا	میں
you	better	festivals	to celebrate	every year
تو	بہتر	فیسٹی ولز	ٹو سیلبریٹ	ایوری ایئر
تو	بہتر	تہوار	منانے کے لئے	ہر سال

English	تلفظ	اردو
The Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) asked them: "Should I give you better festivals to celebrate every year?"	دی رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان سے پوچھا کہ "خڈ آئی گے تو بہتر فیسٹی ولز ٹو سیلبریٹ ایوری ایئر؟"	رسول اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان سے پوچھا کیا میں تمہیں ہر سال منانے کے لئے بہتر تہوار دوں؟

People	replied	in	affirmative
لوگوں	ری پلائڈ	ان میں	انفرمیٹیو
لوگوں	نے جواب دیا	میں	اثبات

English	تلفظ	اردو
People replied in affirmative.	لوگوں نے اثبات میں جواب دیا۔	لوگوں نے اثبات میں جواب دیا۔

He	bade	them	to celebrate	Eid-ul-Fitr	and	Eid-ul-Azha
ہی	بڈ	وہم	ٹو سیلبریٹ	عید الفطر	اینڈ	عید الاضحیٰ
آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	تاکید کی	نے انہیں	منائیں	کہ عید الفطر	اور	عید الاضحیٰ

English	تلفظ	اردو
He bade them to celebrate Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Azha.	ہی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے انہیں تاکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائیں۔	آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے انہیں تاکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائیں۔

پڑھنے کے دوران:

Q. What did the Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ask the people of Madina Munawwarah?

رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مدینہ منورہ کے لوگوں سے کیا پوچھا؟

Ans: Rasool (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) asked the people of Madinal "Should I give you better festivals to celebrate."

جواب: "رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بہتر تہوار منانے کے لئے دوں؟"

Eid-ul-Azha	is	celebrated	on	10 th	Zil-Hajjah,	the last	Islamic	month.
عید الاضحیٰ	از	سیلبریٹڈ	اون	دس	ذی الحج	دی لاسٹ	اسلامک	منٹھ
عید الاضحیٰ	ہے	کو منائی جاتی	کو	دس ذوالحج	جو کہ آخری	اسلامی	ماہ	ہے

English	تلفظ	اردو
Eid-ul-Azha is celebrated on 10 th Zil-Hajjah, the last Islamic month.	عید الاضحیٰ 10 ^{ویں} ذی الحج کو منائی جاتی ہے جو کہ آخری اسلامک ماہ ہے۔	عید الاضحیٰ 10 ^{ویں} ذی الحج کو منائی جاتی ہے جو کہ آخری اسلامک ماہ ہے۔

We celebrate Eid-ul-Azha in the memory of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail (علیہ السلام)	ہم	مناتے ہیں	میں	یاد	آف	حضرت ابراہیم علیہ السلام	اور	حضرت اسماعیل علیہ السلام
ہم	مناتے ہیں	میں	یاد	آف	حضرت ابراہیم علیہ السلام	اور	حضرت اسماعیل علیہ السلام	ہم

English	تلفظ	اردو
We celebrate Eid-ul-Azha in the memory of Hazrat Ibrahim (عليه السلام) and Hazrat Ismail (عليه السلام).	دوئی سکی برےٹ عید الاضحیٰ ان دی میوری آف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام	ہم عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں۔

Allah Almighty	told	Hazrat Ibrahim (عليه السلام)	in	a
اللہ آل مائٹی	ٹولڈ	حضرت ابراہیم علیہ السلام	ان	آ
اللہ تعالیٰ	کوکھا	حضرت ابراہیم علیہ السلام	میں	ایک

dream	to sacrifice	his	son	Hazrat Ismail (عليه السلام)
ڈریم	ٹو سیکری فاکس	ہز	سن	حضرت اسماعیل علیہ السلام
خواب	کو قربان کر دیں	اپنے	بیٹے	حضرت اسماعیل علیہ السلام

English	تلفظ	اردو
Allah Almighty told Hazrat Ibrahim (عليه السلام) In a dream to sacrifice his son Hazrat Ismail (عليه السلام).	اللہ آل مائٹی ٹولڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آ ڈریم ٹو سیکری فاکس ہز سن حضرت اسماعیل علیہ السلام	اللہ تعالیٰ نے ایک خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں۔

He	became	ready	for	that.
ہی	بی کیم	ریڈی	فار	دےٹ
وہ	ہو گئے	تیار	کے لئے	اس

English	تلفظ	اردو
He became ready for that.	ہی بی کیم ریڈی فار دےٹ	وہ اس کے لئے تیار ہو گئے۔

Bul	Allah Almighty	sent	a	ram.
بٹ	اللہ آل مائٹی	سینٹ	آ	ریم
لیکن	رب جلیل نے	بھیج دیا	ایک	دنبہ

English	تلفظ	اردو
But Allah Almighty sent a ram.	بٹ اللہ آل مائٹی سینٹ آ ریم	لیکن رب جلیل نے ایک دنبہ بھیج دیا۔

Hazrat Ibrahim (عليه السلام)	sacrificed	the ram	in	place	of	Hazrat Ismail (عليه السلام)
حضرت ابراہیم علیہ السلام	سیکری فاکس	دی ریم	ان	پلےس	آف	حضرت اسماعیل علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام	قربان کیا	دنبہ	کی	جگہ	کی	حضرت اسماعیل علیہ السلام

English	تلفظ	اردو
Hazrat Ibrahim (عليه السلام) sacrificed the ram in place of Hazrat Ismail (عليه السلام).	حضرت ابراہیم علیہ السلام سیکری فاکس دی ریم ان پلےس آف حضرت اسماعیل علیہ السلام	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دنبہ قربان کیا۔

Eid-ul-Azha	is	a	religious	festival.
عید الاضحیٰ	از	آ	رلی جیس	فیسٹی ول
عید الاضحیٰ	ہے	ایک	مذہبی	تہوار

English	تلفظ	اردو
Eid-ul-Azha is a religious festival.	عید الاضحیٰ از دی رلی جیس فیسٹی ول	عید الاضحیٰ ایک مذہبی تہوار ہے۔

Muslims	always	celebrate	Eid-ul-Azha	with	a
مسلم	آل دیز	سکی بریت	میدالاکھی	دو	آ
مسلمان	ہیش	ماتے ہیں	میدالاکھی	سے	ایک

great	religious	devotion	and	enthusiasm
گریت	رلی جی آس	ڈی دوشن	اینڈ	انتھاسزم
انتہائی	مذہبی	عقیدت	اور	جوش و خروش

English	تلفظ	اردو
Muslims always celebrate Eid-ul-Azha with a great religious devotion and enthusiasm.	مسلمو آل دیز سکی بریت میدالاکھی دو ا گریت رلی جی آس ڈی دوشن اینڈ انتھاسزم	مسلمان میدالاکھی ہیش انتہائی جوش و خروش اور ذہنی عقیدت سے مانتے ہیں۔

On this day	Muslims	wear	new	clothes	and	go to	offer	Eid Namaz.
آن دس	مسلم	دیر	نیو	کلا تھو	اینڈ	گوٹو	آفر	عید نماز
اس	مسلمان	پینتے	نئے	کپڑے	اور	جاتے ہیں	ادا کرنے	عید نماز

English	تلفظ	اردو
On this day Muslims wear new clothes and go to offer Eid Namaz.	آن دس ڈے مسلمو دیر نیو کلا تھو اینڈ گوٹو آفر عید نماز	اس دن مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں اور عید کی نماز ادا کرتے جاتے ہیں۔

After	Eid Namaz	people	greet	each other.
آفر	عید نماز	بی پی	گریت	ایچ آدر
کے بعد	عید کی نماز	لوگ	ملتے ہیں	ایک دوسرے سے

English	تلفظ	اردو
After Eid Namaz people greet each other.	آفر عید نماز بی پی مل گرت ایچ آدر	عید نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔

It	is	a part	of	the social	and	cultural	traditions.
اٹ	از	آپارٹ	آف	دی سوشل	اینڈ	کچرل	ٹریڈیشن
یہ	ہے	ایک حصہ	کا	ساجی	اور	ثقافتی	روایات

English	تلفظ	اردو
It is a part of the social and cultural traditions.	اٹ از آپارٹ آف دی سوشل اینڈ کچرل ٹریڈیشن	یہ ساجی اور ثقافتی روایات کا ایک حصہ ہے۔

Millions	of goats,	sheep,	lamb,	cows	and	camels	are	sacrificed
ملینز	آف گوٹس	شپ	لیمب،	کاؤز،	اینڈ	کیملو	آر	سکری فاکنڈ
لاکھوں	بکریاں،	بھیڑیں،	دبے	گائیں	اور	اونٹ	ہیں	قربان کئے جاتے

after	the Eid Namaz	for	the sake	of	Allah Almighty.
آفر	دی عید نماز	فار	دی سیک	آف	اللہ آل مائی
کے بعد	عید کی نماز	کے لیے	راہ	کی	اللہ تعالیٰ

English	تلفظ	اردو
Millions of goats, sheep, lamb, cows and camels are sacrificed after the Eid Namaz for the sake of Allah Almighty.	ملینز آف گوٹس، شپ، لیمب، کاؤز، اینڈ کیملو آر سکری فاکنڈ آفر دی عید نماز فار دی سیک آف اللہ آل مائی	عید کی نماز کے بعد لاکھوں بکریاں، بھیڑیں، دبے، گائے اور اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کئے جاتے ہیں۔

Seven	people	can	jointly	sacrifice	a cow.					
سیون	بی بی	کین	جو اٹھلی	سیکری فاس	آکاؤ					
سات	لوگ	کر سکتے ہیں	مل کر	قربانی	ایک گائے					
English		تلفظ			اردو					
Seven people can jointly sacrifice a cow.		سیون بی بی کین جو اٹھلی سیکری فاس آکاؤ			سات لوگ مل کر ایک گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔					
Those who	have	arranged	an animal	for sacrifice,	search for	a butcher.				
دو	ہو	ہو	ار-بجڈ	این اینی مل	سیکری فاس	سرج				
دو	جنہوں	ہوتا ہے	بندوبست کر لیا	ایک جانور	قربانی	کے لئے تلاش کرتے				
English		تلفظ			اردو					
Those who have arranged an animal for sacrifice, search for a butcher.		دو ہو ہو ہوا ر-بجڈ این اینی مل قار سیکری فاس			دو لوگ جنہوں نے جانور کا بندوبست کر لیا ہوتا ہے وہ قار سرج تلاش کرتے ہیں۔					
The meat	is	divided	into	three	equal	parts:	one	for	home,	one
دی میٹ	از	ڈیو انڈ	ان ٹو	تھری	ایکول	پارٹس	ون	فار	ہوم	ون
گوشت	ہے	تقسیم	میں	تین	برابر	حصوں	ایک حصہ	کے لئے	گھر	ایک حصہ
for	needy	people	and	one	for	relatives	and	neighbours.		
قار	نی ڈی	بی بی	اینڈ	ون	قار	ریلیووز	اینڈ	نمبرز		
کے لئے	ضرورت مند	لوگوں	اور	ایک حصہ	کے لئے	رشتہ داروں	اور	مسائیوں		
English		تلفظ			اردو					
The meat is divided into three equal parts: one for home, one for needy people and one for relatives and neighbours.		دی میٹ از ڈیو انڈ ان ٹو تھری ایکول پارٹس ون قار ہوم ون قار نی ڈی بی بی اینڈ ون قار ریلیووز اینڈ نمبرز			گوشت تین برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ گھر کے لئے ایک حصہ ضرورت مند لوگوں کے لئے اور ایک حصہ رشتہ داروں اور مسائیوں کے لئے ہے۔					
Later on,	the meat	is	distributed	among	the neighbours	and	needy	people.		
لیٹر آن	دی میٹ	از	ڈسٹری بیوٹڈ	انگ	دی نمبرز	اینڈ	نی ڈی بی بی	ضرورت مندوں		
بعد میں	گوشت	ہے	بانٹ دیا جاتا	درمیان	مسائیوں	اور	لوگوں	کی ضرورت مندوں		
English		تلفظ			اردو					
Later on, the meat is distributed among the neighbours and needy people.		لیٹر آن دی میٹ از ڈسٹری بیوٹڈ انگ دی نمبرز اینڈ نی ڈی بی بی			بعد میں گوشت ضرورت مندوں اور مسائیوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔					
People	go to meet	their	relatives	and	give	them				
بی بی	گوٹو میٹ	دیر	ریلیووز	اینڈ	گید	دیم				
لوگ	ملنے جاتے ہیں	اپنے	رشتہ داروں	اور	دیتے ہیں	ان کو				
the meat	of	their	sacrificial	animal.						
دی میٹ	آف	دیر	سیکری فیشل	اینی مل						
گوشت	کا	اپنے	قربان کے گئے	جانور						
English		تلفظ			اردو					
People go to meet their relatives and give them the meat of their sacrificial animal.		بی بی گوٹو میٹ دیر ریلیووز اینڈ گید دیم دی میٹ آف دیر سیکری فیشل اینی مل			لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں اور ان کو اپنے قربان کے گئے جانور کا گوشت دیتے ہیں۔					

Vocabulary

ذخیرہ الفاظ

A Find the synonyms of the following words in thesaurus:

لفظ میں درج ذیل کے مترادف تلاش کریں۔

festival, events, tradition, culture, devotion

Words الفاظ	Synonyms ہم معانی الفاظ
festival	special event, celebration, fair
events	ceremony, advent, occasion
tradition	custom, practice, convention
culture	civilization, customs, tradition
devotion	adoration, attachment, dedication

B Look up the meaning of the following words in dictionary. Use these in sentences.

ڈکشنری میں مندرجہ ذیل الفاظ کے معانی دیکھیں۔ انہیں اپنے جملوں استعمال کریں۔

rejoice, religious, sacrifice, celebrate, needy

rejoice خوش	People rejoice themselves of these festivals.
religious مذہبی	Eid-ul-Azha is our religious festival.
sacrifice قربانی	The muslims sacrifice cow, camel or sheep on Eid-ul-Azha.
celebrate مناتے ہیں	We celebrate two Eids every year.
needy ضرورت مند	We should take care of the needy.

Reading for Comprehension پڑھ کر سمجھنا

A Give short answers to the following questions.

درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔

1. What is the Importance of a festival?

تہوار کی کیا اہمیت ہے؟

Ans. Festivals bring people closer to each other.

تہوار لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔

2. Why do Muslims celebrate Eid-ul-Azha?

مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟

Ans. Muslims celebrate Eid-ul-Azha in the memory of Hazrat Ibraheem علیہ السلام and Hazrat Ismail علیہ السلام.

مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔

3. What do the Muslims sacrifice on the day of Eid-ul-Azha?

مسلمان عید الاضحیٰ کے دن کیا قربان کرتے ہیں؟

Ans. They sacrifice goat, cow, sheep, and camel.

دو کڑی، بگائے، بھینڑ اور اونٹ قربان کرتے ہیں۔

4. How are Eid celebrations a source of happiness for everyone?

ہر ایک تہوار کے لئے کیسی خوشی کا ذریعہ ہیں؟

Ans. On this occasion people greet each other and help one another.

اس موقع پر لوگ ملنے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

5. Name a few religious festivals celebrated around the world.

دنیا میں منائے جانے والے کچھ مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔

Ans. Different nations celebrate different religious festivals as:

Muslims: Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Azha.

Hindus: Dewali.

Christians: Christmas and Easter.

تفرتوں میں مختلف مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ: مسلمان: عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہندو: دیوالی اور عیسائی: کرسمس اور ایسٹر وغیرہ مناتے ہیں۔

B Each statement is followed by four possible answers. Tick (✓) the correct option.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات درج ذیل ہیں درست جواب پر ✓ کا نشان لگائیں

1. Eid-ul-Fitr is a _____ festival.

(a) local (b) historical

(c) ✓ religious (d) social

2. Eid-ul-Azha is the festival of the _____.

(a) ✓ Muslims (b) Hindus

(c) Sikhs (d) Christians

3. Eid-ul-Azha is celebrated in the memory of a Nabi's _____.

(a) worship (b) sports (c) ✓ sacrifice

(d) anxiety

4. _____ can jointly be sacrificed.

(a) goat (b) lamb (c) sheep (d) ✓ cow

Grammar قواعد

Countable Nouns: قابل شمارش

Countable nouns are the names of things, persons, etc. that can be counted, e.g., child, cow, books, pen etc.

قابل شمارش اسم وہ ہیں جن کو شمار کیا جاسکے جیسے کہ بچہ، گائے، کتابیں، پن اور وغیرہ

Uncountable nouns: ناقابل شمارش

Uncountable nouns are the names of those things which cannot be counted, e.g., air, water, gas, salt, etc.

نا قابل شمارش چیزوں کے نام ہیں جن کو شمار نہ کیا جاسکے جیسے کہ ہوا، پانی، گیس، نمک وغیرہ

A Classify the following nouns into countable and uncountable nouns.

درج ذیل میں سے قابل شمار اور ناقابل شمار کی درجہ بندی کریں۔

sand, bag, sugar, dust, box, ship, oil, medicine, bale, milk

Countable Nouns	Uncountable Nouns
bag	sand
box	sugar
ship	dust
bale	oil
medicine	milk

B Pick out and write countable nouns from the lesson.

سبق میں سے قابل شمار نام تلاش کریں اور لکھیں

Ans. people, festival, month, ram, animal, cloth, goat, sheep, cow, camel, home.

Adverbs of Frequency
کثرت کے فعل متعلق

Adverbs of frequency tell how often something occurs or is done. Adverbs of frequency answer the question how often?

These are: always, often, never, seldom, rarely, usually, again, generally frequently etc.

کثرت کے فعل متعلق بتاتے ہیں کہ کوئی کام کتنی دفعہ ہوا ہے۔ کثرت کے فعل متعلق سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کتنی بار کام ہوا۔

For examples:

Muslim always celebrate Eid-ul-Azha with devotion.

مسلمان ہمیشہ عید الاضحیٰ عقیدت سے مناتے ہیں۔

He seldom comes here.

وہ کبھی کبھار یہاں آتا ہے۔

She often makes mistakes.

وہ اکثر غلطیاں کرتی ہے۔

C Fill in the blanks with appropriate adverbs of frequency from the given list.

درج ذیل کو مناسب کثرت کے فعل متعلق سے پُر کریں دی گئی فہرست میں سے۔

rarely, always, sometimes, usually, regularly

No.	Statement
1.	My aunt is <u>always</u> in a great hurry.
2.	My father <u>sometimes</u> takes us out for dinner.
3.	Ahmad <u>usually</u> wants to play cricket on holiday.
4.	My sister <u>regularly</u> helps mother in the household work.

5. Eid is rarely a happy occasion for the poor people.

D There are five adverbs of frequency in this passage. Underline them.

اس پیراگراف میں 5 کثرت کے فعل متعلق ہیں انہیں خط کشیدہ کریں۔

Majid always runs fast, So, he seldom looks right and left. He often thinks of participating in race competition, but he never gets a chance in the school annual sports event. He is usually shy of talking to his physical training teacher.

E Look at paragraph 1 of the lesson in which the phrase 'dull and boring' has been used.

پیراگراف نمبر 1 کو دیکھیں جس میں 'Dull and boring' استعمال ہوا ہے۔

☆ 'Dull and boring' means uninteresting. 'Dull' is a word which can be used for light colours, weather and person.

Examples: Her dress was rather dull. (not bright or shiny)

Yesterday was a dull day. (not bright, cloudy)

There are two dull students in my class. (slow in understanding)

"dull اور boring" کا مطلب غیر دلچسپ ہوتا ہے۔ "dull" ایسا لفظ ہے

جس کو بے کیف رنگ، موسم اور انسان کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اس کا

لباس قدرے بے کیف تھا۔ (یعنی چمکدار نہیں تھا) کل بے کیف دن تھا۔ (یعنی

غورگوار تھا، ابرا آلود تھا)

میری جماعت میں دو ناواقف طالب علم ہیں۔ (مجھے میں سب سے)

☆ 'End' is another such word. Consult a dictionary and make three sentences indicating different shades of meaning of 'end'.

'End' بھی ایسا لفظ ہے جلت میں دیکھیں اور اس کے مختلف معانی کے متن لکھتے بنائیں۔

I. He was on the end (کنارہ) of the road.

II. Hold the end (نیرا) of the string.

III. The end (انتهام) of the story was good.

F Punctuate the following dialogue.

درج ذیل مکالمے کو درموزاد آواز لگائیں۔

Sara: dr salma has been trying to call us all day long.

Sara: Dr. Salma has been trying to call us all the day long.

Nimra: what does she want

Nimra: What does she want?

Sara: she wants to invite us for lunch.

Sara: She wants to invite us at lunch.

Nimra: when did she come back from usa

Nimra: When did she come back from U.S.A?

Sara: last sunday

Sara: Last Sunday.

Nimra: who else will be there
 Sara: All, Hina and Frida are also going
 Nimra: would you go to lunch
 Sara: why not

Nimra: Who else will be there?
 Sara: All, Hina and Frida are also going.
 Nimra: Would you go to lunch?
 Sara: Why not!

Pronunciation Key in a Dictionary
 لغت میں تلفی کی علامات

Constant Symbols

Symbol	Word	Symbol	Word	Symbol	Word
p	pen	f	fall	h	hat
b	bad	v	van	m	man
t	tea	θ	thin	n	now
d	dld	ð	this	ŋ	sing
k	cat	s	see	l	leg
g	get	z	zoo	r	red
tʃ	chain		shoe	j	yes
dʒ	jam	ʒ	vision	w	wet

Vowel symbols

Symbol	Word	Symbol	Word	Symbol	Word
i:	free	a:	father	ʊ	put
ɪ	slit	ʌ	cup	u:	too
e	ten	ɔ:	saw	ɜ:	fur
æ	cat	ɒ	got	ə	about

Gliding vowels: Diphthongs

at	my	əʊ	go	eə	hair
aʊ	now	ɔɪ	boy	ʊə	pure
eɪ	say	ɪə	near		

Give the pronunciation of the following words as given in the dictionary.

air	eə (r)
caption	k æ pʃn
except	ɪk'sept
law	lɔ:
wedge	wɛdʒ

Writing Skills لکھنے کی مہارتیں

Write a paragraph of 60-70 words on any festival that you often celebrate with the help of the following mind map.

ایسے کسی وقتی منگے سے 60-70 الفاظ کا کسی ایسے تہوار پر مشتمل پیرگراف لکھیں جو آپ کی بھاری منگے کرتے ہو۔



Ans. Eid-ul-Fitr:
 Eid-ul-Fitr is a great religious festival of Muslims. It is celebrated on 1st Shawal after the completion of Ramadan. People start the preparation of the celebration of Eid from the very beginning of Ramadan. Everyone wears new clothes, offer the prayers, greets one another and eats vermicelli. After fasting for one month, people can really understand the problems of needy and the poor people. It is also necessary to give "Fitrana" to the needy people before celebrating Eid-ul-Fitr. Therefore, Eid-ul-Fitr is also an event of sharing the joys and sorrows of the others.

Write the following sentences under relevant box.

Eid-ul-Fitr	Eid-ul-Azha
It is celebrated after Ramadan.	Muslims sacrifice sheep, goats and cows.
Eid cards are exchanged with each other.	It is related with Hazrat Ibrahim (علیہ السلام)
Fitrana is given to the poor and needy fellows.	Meat is distributed among the relatives and needy people.
Eidi is given to children.	It is celebrated on 10th Zil-Hajjah.

Oral Communication Skills زبانی گفتگو کی مہارتیں

Sana: Good morning, Sobla.	ثنا: صبح بخیر صوبہ۔
Sobla: Good morning, Sana.	صوبہ: صبح بخیر ثنا۔
Sana: Can you do me a favour?	ثنا: کیا آپ میری بات مانیں گی؟
Sobla: Sure.	صوبہ: یقیناً۔
Sana: I've a problem. I have to take some photographs and I don't have a camera. Can I borrow yours?	ثنا: مجھے ایک مسئلہ ہے۔ مجھے کچھ تصویریں بنانی ہیں لیکن میرے پاس کیمرہ نہیں ہے کیا میں آپ کا کیمرہ لے سکتی ہوں؟
Sobla: I'm sorry, I don't have one.	صوبہ: میں معذرت خواہ ہوں میرے پاس نہیں۔
Sana: Do you know anybody who has a camera?	ثنا: کیا آپ کسی کو جانتی ہیں جس کے پاس کیمرہ ہو؟
Sobla: Yes! You should call Rabla. I'm sure she'll be happy to lend you hers.	صوبہ: جی آپ رابعہ سے رابطہ کریں وہ اپنا کیمرہ دینے میں خوش ہوگی۔
Sana: Thank you, I'll call her right now.	ثنا: آپ کا شکریہ میں ابھی اُسے فون کرتی ہوں۔

Group Activity

اجتماعی سرگرمی

Practise this conversation in pairs.

گروپ کی شکل میں مشق کریں۔

Suggested Reading

تجویز کردہ مطالعہ

A book of discovery by M.B. Syngé
Bush Christmas by Ralph Smart

Glossary

اصطلاحات

affirmative	ثبت	saying 'yes', or expressing agreement
-------------	-----	---------------------------------------

brotherhood	بھائی چارہ	friendship and understanding between people
bade	حکم دینا	commanded someone to do a specified thing
beef	گوشت	meat of a cow or buffalo
butcher	قصابی	a person who cuts and sells meat in a shop
cultural	ثقافت	customs or beliefs of a particular society
celebration	تقریب	special event organized to celebrate some occasion
devotion	وقف	great love, care and support for someone
enthusiasm	پر جوش جذبہ	strong feeling of excitement and desire
festival	تہوار	cultural event
memory	یادگار	Remembrance
million	ملین	ten lakhs is equal to one million
occasion	مواعج	opportunity, chance
rejoice	خوشی	to feel happy
religious	مذہبی	relating to a religion
sacrifice	قرہانی	the act of offering something to Allah Almighty as a token of worship relating to a religion
zll-Hajjah	ذوالحج	12th month of the Islamic calendar

Test Preparation امتحانی تیاری

☆ Read the given paragraph and answer the question no. 1 - 5.

ﷺ (صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وَاَصْحَابہِ وَسَلَّمَ) reached Madina Munawwarah after leaving Makkah Mukarramah, people told him that they used to celebrate two festivals every year. The Rasool (صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وَاَصْحَابہِ وَسَلَّمَ) asked them:

"Should I give you better festivals to celebrate every year". People replied in affirmative. He bade them to celebrate Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Azha.

1. Which place, the Rasool

ﷺ left.

- (a) Taif (b) Madina
(c) Makkah (d) Jaddah

2. The people of Madina Munawwarah used to celebrate _____ festivals.

- (a) Two (b) Three (c) Four (d) Five

3. He (ﷺ) bade them to celebrate Eid-ul-Fitr and.

- (a) Eid-Melad (b) Eid-ul-Azha
(c) Ramadan (d) Shab-e-Meraj

4. People replied in -----.

- (a) Anger (b) smile
(c) laugh (d) affirmative

5. The meaning of "bade" is:

- (a) Tell (b) Show
(c) Scold (d) Command

6. Countable noun is:

- (a) love (b) Lahore (c) window (d) beauty

7. Countable noun is:

- (a) love (b) flag (c) Pakistan (d) honesty

8. Countable noun is:

- (a) coward (b) courage
(c) Ibrahim (d) strength

9. The group of all the countable nouns is:

- (a) flower, water, rice, ring
(b) team, milk, river, rope
(c) ball, cat, pill, gun
(d) sugar, bottle, heart, fruit

10. Group of words with all uncountable nouns is:

- (a) air, water, table, oil
(b) air, love, honesty, truth
(c) milk, oil, water, jug
(d) air, water, cup, tea

11. Tick the correct adverb of frequency to complete the given sentence:

I have told you _____.

- (a) before (b) ago (c) twice (d) now

12. The correct adverb of frequency used in the sentence is:

He often makes mistakes.

- (a) mistakes (b) often (c) makes (d) he

13. Tick the sentence in which the adverb of frequency is used correctly:

- (a) He tries always to do his best.
(b) He tries to do always his best.
(c) He tries to do his best always.
(d) He always tries to do his best.

14. The sentence with correct punctuation and capitalization is:

- (a) Islamabad is the capital of Pakistan.
(b) Islamabad is the capital of pakistan.
(c) Islamabad is the capital of Pakistan.
(d) Islamabad is the capital of Pakistan.

15. (a) I like to go to London

(b) I like to go to london

(c) I like to go to London

(d) I like to go to London

16. (a) I visited Lahore Karachi Quetta and Peshawar.

(b) I visited Lahore, Karachi Quetta and Peshawar.

(c) I visited Lahore, Karachi, Quetta and Peshawar.

(d) I visited Lahore Karachi, Quetta and Peshawar.

17. (a) Rahat Amina Razia and Asma are my friends.

(b) Rahat, Amina Razia and Asma are my friends.

(c) Rahat, Amina, Razia, and Asma are my friends.

(d) Rahat, Amina, Razia and Asma are my friends.

18. (a) We live in Pakistan.

(b) We Live in Pakistan.

(c) we live in Pakistan. (d) We live in Pakistan.

19. (a) Yes sir, It is March 25.

(b) yes sir, It is March 25.

(c) Yes sir, It is March 25.

(d) yes , sir, It is March 25.

20. (a) Huma's farm is near Jhelum.

(b) Huma's Farm is near Jhelum.

(c) Huma's farm is near Jhelum.

(d) huma's farm is near Jhelum.

21. (a) zoha is my sister she is five years old.

(b) Zoha is my sister She is five years old.

(c) Zoha is my sister. She is five years old.

(d) zoha is my sister. She is five years old.

Lesson 4: RAIN IN SUMMER

گرمیوں کی بارش

Pre-reading:

پڑھنے سے پہلے کی مشق

Read the title of the poem.

★ Can you tell what the poem is about.

Ans: The poem is about the rain.

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نظم کس کے متعلق ہے؟
جواب: نظم بارش کے متعلق ہے۔

Urdu Translation

اردو ترجمہ

How	beautiful	is	the rain!
ہاؤ	بیوتی فل	از	دی رین
کنی	خوبصورت	ہوتی ہے	بارش

English	تلفظ	اردو
How beautiful is the rain!	ہاؤ بیوتی فل از دی رین	بارش کنی خوبصورت ہوتی ہے،

After	the dust	and	heat,
آفٹر	دی ڈسٹ	اینڈ	ہیٹ
کے بعد	کرد	اور	گرمی

English	تلفظ	اردو
After the dust and heat,	آفٹر دی ڈسٹ اینڈ ہیٹ	گرد اور گرمی کے بعد،

In	the broad	and	fiery	street,
ان	دی براڈ	اینڈ	فیری	سٹریٹ
میں	صل	اور	گرم	کلی

English	تلفظ	اردو
In the broad and fiery street,	ان دی براڈ اینڈ فیری سٹریٹ	کلی اور گرم کلی میں،

In	the narrow	lane,
ان	دی نیرو	لین
کے	نگ	راستوں

English	تلفظ	اردو
In the narrow lane,	ان دی نیرو لین	نگ راستوں پر،

How	beautiful	is	the rain
ہاؤ	بیوتی فل	از	دی رین
کنی	خوبصورت	ہوتی ہے	بارش

English	تلفظ	اردو
How beautiful is the rain	ہاؤ بیوتی فل از دی رین	بارش کنی خوبصورت ہوتی ہے،

How	it	clatters	along	the roofs,
ہاؤ	اٹ	کلٹرز	الانگ	دی رووفز
کیسا	یہ	شور مچاتی ہے	کے	پھتوں پر

English	تلفظ	اردو
How it clatters along the roofs,	ہاؤ اٹ کلٹرز لانگ دی رووفز	پھتوں پر یہ کیسا شور مچاتی ہے،

Like	the tramp	of	hoofs!
لائگ	دی ٹریپ	آف	ہووز
جیسے	آواز	کی	گھوڑوں کے قدموں

English		تلفظ		اردو	
Like the tramp of hoofs!		لائگ دی ٹریپ آف ہولز		جیسے ٹمپوں کے قدموں کی آواز	
How		gushes		and struggles out.	
ہاڈ		اٹ		ایڈ اور	
کس طرح		جدوجہد کرتی		پھوٹی ہے	
English		تلفظ		اردو	
How it gushes and struggles out,		ہاڈاٹ کٹھڑا ایڈ ٹمپز آؤٹ		جیسے کس طرح جدوجہد سے پھوٹی ہے،	
From		of		the overflowing spout!	
فرام		آف		دی اوورفلوونگ سپاؤٹ	
سے		کے		سے بہتی ہے	
English		تلفظ		اردو	
From the throat of the overflowing spout!		فرام دی ٹھروٹ آف دی اوورفلوونگ سپاؤٹ		ل کے گلے میں سے بہتی ہے۔	
Across		the window		pane	
آکرس		دی ونڈو		پین	
سے		کھڑکی		کے شیشوں	
English		تلفظ		اردو	
Across the window pane		آکرس دی ونڈو پین۔		کھڑکی کے شیشوں سے،	
It		pours		and pours;	
اٹ		پورز		ایڈ اور	
سے		کرتی		پورز کرتی رہتی ہے	
English		تلفظ		اردو	
It pours and pours;		اٹ پورز ر اینڈ پورز		پرتی اور کرتی رہتی ہے،	
And		swift		and wide,	
ایڈ		سولٹ		ایڈ اور	
اور		تیز		واحد آہستہ	
English		تلفظ		اردو	
And swift and wide,		ایڈ سولٹ ایڈ واڈ		اور تیز اور آہستہ،	
With		a		muddy	
و		آ		مڈی	
کے ساتھ		ایک		مٹی	
English		تلفظ		اردو	
With a muddy tide,		وڈا مڈی ٹائیڈ		مٹی کے ساتھ تارچھاؤں،	
Like		a river		down	
لائگ		آرپر		ڈاؤن	
جس طرح		دریا		نیچے	
English		تلفظ		اردو	
Like a river down the gutter roars		لائگ آرپر ڈاؤن دی گٹر زور۔		جیسے دریا نیچے نالے میں شور کرتا ہے،	
The rain,		we		welcome	
دی رین		وئی		ویل م	
بارش		ہم نہیں		خوش آمدید کہتے ہیں	
English		تلفظ		اردو	
The rain, we welcome rain		دی رین وئی ویل م رین		بارش ہم بارش کو خوش آمدید کہتے ہیں۔	

Vocabulary

ذخیرہ الفاظ

A Find out the words from the poem which have the same meaning as in column 'A' and write them in column B.

نظم میں سے الفاظ تلاش کریں جن کے معانی کالم A میں لکھے ہیں اور ان کو کالم B میں درج کریں۔

A	B
makes repeated sharp sounds	Clatters.
rushes forth	Gushes,
as hot as fire	Fiery
the hard part of the feet of horses	Hoofs.

B Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words.

ایک ڈکشنری کی مدد سے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔

Words	Synonyms
lane	track, path, passage
swift	fast / quick / speedy
muddy	boggy, marshy, miry
narrow	thin / not wide / limited

Reading Comprehension پڑھ کر سمجھنا

A Answer the following questions.

مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔

1. When does the rain look beautiful?

بارش کب خوبصورت لگتی ہے؟

Ans: It looks beautiful after heat and dust.

جواب: یہ گرمی اور گرد کے بعد خوبصورت لگتی ہے۔

2. How does the poet compare the sound of rain dropping on roofs?

شاعر بارش کی چمتوں پر آواز کو کس سے تشبیہ دیتا ہے؟

Ans: The poet compares the sound of rain with hoofs.

جواب: شاعر بارش کو گھوڑے کی چاپوں کی آواز سے مطابقت دیتا ہے۔

3. What is a spout? Why is it called overflowing?

ٹل کیا ہے؟ اسے زیادہ بہنے والا کیوں کہا جاتا ہے؟

Ans: It is a kind of water pipe, It is overflowing because of the rain water which it drains.

جواب: یہ ایک طرح کا پانی کا پائپ ہے۔ بارش کے پانی کی وجہ سے یہ بہتا رہتا ہے۔

4. Where does the rain water pour?

بارش کا پانی کہاں گرتا ہے؟

Ans: The rain water pours down the gutter.

جواب: بارش کا پانی گٹر میں جاتا ہے۔

5. How does the rain water look like in the streets?

گلیوں میں بارش کا پانی کیسا نظر آتا ہے؟

Ans: It looks like a river.

جواب: یہ دریا کی طرح دکھائی دیتا ہے۔

6. Who welcomes the rain?

بارش کو کون خوش آمدید کہتا ہے؟

Ans: We all welcome the rain as it makes the weather pleasant and fresh.

جواب: ہم سب بارش کو خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ بارش موسم کو تازہ اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔

B Fill in the blanks to complete the following stanza:

درج ذیل بند جملوں کو مکمل کرنے کے لیے خالی جگہ پُر کریں۔

No.	Statement
1.	How it clatters along the <u>roofs</u> .
2.	Like the <u>tramp</u> of hoofs.
3.	How it <u>gushes</u> and struggles out.
4.	From the throat of the <u>overflowing</u> spout.

Grammar قواعد

Use of Indefinite Articles "a" and "an"

The choice between 'a' and 'an' is determined by sound. 'A' is used before a word beginning with a consonant sound and 'An' is used before a word beginning with a vowel sound.

A اور An کے درمیان انتخاب آواز کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ صحیح آواز کے الفاظ کے پہلے a استعمال ہوتا ہے۔ واول آواز والے الفاظ سے پہلے an استعمال ہوتا ہے۔

If we wish to generalize the Noun, we use the indefinite article, e.g., A lion lives in a forest (i.e., any lion and any forest in general sense). An ox is grazing in the field. (Here an ox, that is not any particular ox, grazing in a particular field).

اول الفظ کے لیے an اگر ہم نام کا اصول واضح کرنا چاہیں تو ہم مہم حروف تکبیر استعمال کرتے ہیں جیسے A lives in عام ذمے میں کوئی بھی شیر کوئی بھی جنگل ہو سکتا ہے ایک تیل کھیت میں چر رہا ہے ایک تیل خاص نام نہیں ہوتا خاص کھیت میں چر رہا ہے

'a' before consonant sound
a book ایک کتاب
a chair ایک کرسی
a table ایک میز
a man ایک آدمی

'an' before vowel sound
an apple ایک سیب
an eye ایک آنکھ
an ox ایک تیل
an ant ایک چیونٹی

Special Use خصوصی استعمال

'a' before vowel sounding as 'yu' / 'wa'
a union
a useful book
a کو ایک واول آواز جیسے کہ yu / wa سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔

'an' before consonant sounding as vowel
an hour an M.A.
an کو ایک consonant آواز سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔

Use of Definite Article "the":
واضح حروف تکبیر کا استعمال

This is the definite article, because it normally points out some particular person or thing; as, He saw the teacher; meaning some particular teacher.

(The) ایک معین حرف تکبیر ہے کیونکہ عام طور پر یہ کسی مخصوص شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس نے استاد کو دیکھا یعنی کسی مخصوص استاد کو دیکھا۔
The definite nouns and uncountable nouns.
مخصوص اسم اور ناقابل شمار اسم سے پہلے۔

For example, مثلاً
the box, the boxes, the milk, etc.

A Fill in the blanks using indefinite article 'a' or 'an'.

واضح حروف تکبیر 'a' یا 'an' کے استعمال سے خالی جگہیں پُر کریں۔

No.	Statement
1.	Birds of <u>a</u> feather flock together.
2.	Blial is <u>a</u> business man.
3.	All is <u>an</u> engineer.
4.	<u>An</u> old man came to our home.
5.	She seems to be <u>an</u> English.
6.	<u>An</u> ounce is enough.
7.	Rabla is <u>a</u> university student.

B Complete the following sentences by filling in 'a' or 'an' or 'the' as may be suitable:
منہ بدل جملوں کو "the اور an, a" جو مکی مناسب ہو گا کر مکمل کریں:

No.	Statement
1.	Gold is <u>a</u> precious metal.
2.	Do you see <u>the</u> blue sky?
3.	She returned after <u>an</u> hour.
4.	<u>The</u> sun shines brightly.
5.	Makkah is <u>the</u> holy city.
6.	Let us discuss <u>the</u> matter seriously.
7.	Who is <u>the</u> boy sitting there?

C Pronounce the following words laying the stress at proper syllable.


درج ذیل الفاظ کا تلفظ بتائیں جو کہ خاص جگہوں پر زور دیں۔

1.	present	noun	present	verb
2.	contract	noun	contract	verb
3.	object	noun	object	verb

Writing Skills لکھنے کی مہارتیں

A Study the flowchart of formation and rainfall. Then write a paragraph of 60-70 words on 'Rainfall'.

مطرباتی قلو چارٹ کو پڑھیں اور پھر 60 یا 70 الفاظ کا پیرا گراف "بارش" پر لکھیں۔



Rain Fall

When the sun rises, its rays fall on the places where water is present like sea, canals and rivers, etc. The rays of the sun suck up water from sea in the form of vapours. These water vapours rise high up in the sky. They become cooler and cooler when they go higher and higher. They condense into clouds. The clouds become too heavy after containing more vapours and start falling in the form of rain.

B Look at the picture and write a short paragraph on it.



Ans. It is a hot summer day. Everyone is disturbed because of heat, and bright rays of the sun. All of a sudden clouds appear there. It starts raining heavily. All the dust and heat is finished. The children are playing and swimming in the rain water. Some are throwing water on the others. Some are jumping in it while others are simply standing and enjoying the scene.

C Write the summary of the poem. Use the following words.

درج ذیل الفاظ استعمال کرتے ہوئے نظم کا خلاصہ لکھیں۔

beautiful, heat, street, roofs, pours, tide, welcome

Ans. After the heat and dust, rain looks beautiful. It falls in the broad, narrow and hot streets. It makes sharp sounds when it falls on the roofs of the houses. The water of rain flows through the small pipes along with the wet tide of soil and pours into the gutter. It falls continuously and makes a very loud and deep sound. It sounds like the steps of the horses. Everyone welcomes the rain, because it brings freshness in the hot summer days.

Oral Communication Skills زبانی گفتگو کی مہارتیں

Majid: How did you learn to swim so well?
 Sajid: تم نے اتنی اچھی تیراکی کیسے سیکھی؟

Sajid: I started to swim when I was young, and I've been swimming ever since.	ساجد: جب میں چھوٹا تھا تب سے تیراکی شروع کی میں بہت پہلے سے تیراکی کر رہا ہوں۔
Majid: I envy you. I've never swum before.	ماجد: مجھے تم پر رشک ہے۔ میں پہلے کبھی نہیں تیرا۔
Sajid: I'll be glad to teach you how to swim.	ساجد: میں آپ کو تیراکی سکھانا خوش محسوس کروں گا۔
Majid: That's very kind of you. But isn't swimming very difficult?	ماجد: آپ کی بہت مہربانی ہے لیکن کیا تیراکی مشکل نہیں ہے؟
Sajid: Not at all. After you practise swimming a few times, you'll probably swim as well as I do.	ساجد: بالکل نہیں کچھ وقت تیراکی کرنے کے بعد آپ میری طرح تیر سکیں گے۔

Group Activity اجتماعی سرگرمی

Practise this dialogue in pairs. جوڑوں کی شکل میں اس مکالمہ کی مشق کریں۔

Suggested Reading تجویز کردہ مطالعہ

Humming-bird by D.H. Lawrence
 A Summer Noon by Carlos Wilcox

Glossary اصطلاحات

clatters	متواتر شور	makes repeated sharp sounds
flery	گرم	as hot as fire
gushes	آگے لکھنا	rushes forth
gutter	ناستہ	long curved metallic or plastic channel to carry away rain water
hoof	نم	hard part of the foot of some animals-horses
muddy	ٹیلا	covered with or containing soft, wet earth
pours	گرنے	falls continuously
roars	آواز اگرنے	makes a very loud, deep sound

spout	سُوت	a pipe or a tube to pour liquid out - spout of a teapot
struggle	مُجَاهِد	try hard to do something
tramp	قَدَموں کی آواز	sound of steps

Test Preparation امتحانی تیاری

☆ Read the given stanza and answer the question no. 1-5.

Across the window pane
It pours and pours;
And swift and wide,
With a muddy tide,
Like a river down the gutter roars
The rain, we welcome rain.

1. It pours and _____
(a) flow (b) pours (c) wet (d) dry
2. The colour of the rainy water is:
(a) blue (b) white (c) muddy (d) black
3. The rain's water is pouring across the window _____
(a) way (b) pane (c) side (d) from
4. The poem is about?
(a) Rain (b) summer (c) water (d) window
5. The meaning of "Swift" is
(a) fast (b) continue (c) slow (d) rapidly
6. Kashif works _____ office in Karachi.
(a) the (b) on (c) a (d) an
7. "She holds _____ M.A. degree from _____ university in England."

Appropriate articles to complete the above sentences are:

- (a) a, a (b) an, an (c) a, an (d) an, a
8. The sentence with correct use of articles is
(a) Boy in the car is the bother.
(b) The boy in the car is the brother.
(c) Boy in car is my brother.
(d) The boy in the car is my brother.
9. It is _____ honour to meet you. I hope you will give us _____ honest opinion about our plans.
Appropriate articles to complete the above sentences are:
(a) a, a (b) an, an (c) a, an (d) an, a
10. I read _____ story about one-eyed giants
(a) an (b) the (c) a (d) on

11. He is _____ educated man:
(a) the (b) a (c) an (d) on
12. Tick the group in which all words are articles:
(a) an, the, am (b) any, an, the
(c) a, an, the (d) the, an, is
13. Tick the correct articles which can be used in the blanks given in the following sentence: Junaid likes to eat _____ orange but does not like to eat _____ banana.
(a) a, an (b) a, the (c) an, a (d) the, an
14. Tick the correct articles which can be used in the blanks given in the following sentence: He likes to read _____ book and likes to write _____ article.
(a) a, an (b) a, the (c) an, a (d) the, an
15. Tick the sentence which is correct regarding use of article:
(a) Sun is a star. (b) K2 is highest peak.
(c) The earth is round.
(d) The man is mortal.
16. Tick the sentence in which the article is used correctly:
(a) He hit upon the idea.
(b) He hit upon an idea.
(c) He hit upon a idea.
(d) He hit upon idea.
17. Tick the sentence in which the article is used correctly:
(a) One night the thief came to his bed room.
(b) One night an thief came to his bed room.
(c) One night a thief came to his bed room.
(d) One night, thief came to his bed room.
18. Tick the sentence with correct use of article.
(a) The lion is a king of beasts.
(b) The lion is the king of beasts.
(c) A lion is the king of beasts.
(d) Lion is the king of beasts.
19. We are going to have _____ I.D. card tomorrow:
(a) a (b) an (c) the (d) and
20. We need _____ axe to cut a tree.
(a) a (b) an (c) the (d) and
21. This tiny man carried a bow and arrow _____ his hand:
(a) with (b) within (c) into (d) in
22. God spoke to _____ Rasool (ﷺ) on this occasion.
(a) a (b) the (c) an (d) in
23. He puts _____ hat on his head.
(a) on (b) an (c) a (d) the

Review-1

A Consult a thesaurus to find the synonyms of the following words.

درج ذیل کے معانی (متراوف) کے لئے لغت استعمال کریں۔

Words	Synonyms
street سڑک	lane, thoroughfare, avenue.
market منڈی	shopping centre, bazaar / commercial place.
boy لڑکا	lad, guy, male child, kid.
beat مارنا	hit, strike, whip, trash.
pain درد	ache, pang, suffering

B Look up the meaning of the following words in dictionary. Use these in sentences.

درج ذیل کے معانی لغت میں دیکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔

ample, batch, passion, rebate, plenty

ample	کثارت	This hall is ample.
batch	دست	The batch of students participate in race.
passion	جنون	cricket is my passion.
rebate	کٹوتی	This is rebate of your loan.
plenty	کافی اورافر	There are plenty of mangoes in orchard.

C Read the following and underline the pronouns.

درج ذیل کو پڑھیں اور اسم اشارہ کو خط کشیدہ کریں۔

- Birds build their nests in trees.
- Shahid has lost his watch and cannot find it.
- The horse fell down and broke its leg.
- Rabia, you are a lazy girl.
- Aslam brought his book and laid it on the desk.

D Make questions of the following sentences.

درج ذیل جملوں کے سوالات بنائیں۔

- He is running in the playground.
Ans: Where is he running?
- They are sitting in the examination hall.
Ans: Where are they sitting?

3. He is watching television.

Ans: What is he doing?

4. She is writing a letter to her uncle.

Ans: What is she writing?

5. They are going to market for shopping.

Ans: Why are they going to market?

E Separate regular and Irregular verbs from the given list and put them in relevant column.

درج ذیل میں قابل شمار اور ناقابل شمار کواگ اگ کریں اور متعلقہ کالم میں لکھیں۔
attain, buy, help, cut, play, keep, take, invite

Regular Verbs	Irregular Verbs
attain.	buy.
help.	cut.
play.	keep.
invite.	take.

F Punctuate the following sentences.

درج ذیل جملوں میں رموز اوقاف لگائیں۔

1. alas we have lost the match

Ans: Alas! We have lost the match.

2. Islamabad is the capital of pakistan

Ans: Islamabad is the capital of Pakistan.

3. hey hina stop

Ans: Hey! Hina stop.

4. i will come back at seven o clock in the evening.

Ans: I will come back at seven o' clock in evening.

5. my email address is cgrs @ yahoo com

Ans: My E-mail address is cgrs @ yahoo .com.

G Fill in the blanks with linking verbs from the given list.

دی گئی فہرست میں سے Linking verbs کے استعمال سے خالی جگہ پُر کریں۔

keeps, tastes, prove, look, sound

- The food taste delicious.
- They always prove to be the best debaters.
- Bilal keeps quiet.
- My neighbours sound very angry.
- My sister keeps her books safe.

H Fill in the blanks with correct preposition.

درست حروف جار سے خالی جگہ پر کریں۔

- The moon revolves round the Earth.
- A fair little boy sat beneath a tree.
- Humpty Dumpty sat on a wall.
- She is afraid of the dog.
- It has been raining since yesterday.
- I left him away.

I Separate countable and uncountable nouns from the given list and put them in relevant column.

قابل شمار اور ناقابل شمار کو علیحدہ علیحدہ کریں اور متعلقہ خانے میں لکھیں۔

sugar, rupees, pens, pencils, salt, tea, water, cup

Countable Nouns	Uncountable Nouns
rupees	sugar
pencils	salt
cup	tea
pens	water

J Fill in the blanks with suitable words given below.

دیئے گئے الفاظ سے خالی جگہ پُر کریں۔

hockey, bring, promise, life, pain

1. You should always fulfill your promise.
2. Go and bring a glass of water for me.
3. He was playing hockey in the playground.
4. You should not pain on others.
5. We must help the person whose life is in danger.

K Fill in the blanks with appropriate adverbs of frequency from the given list.

کثرت کے فعل متعلق سے خالی جگہ پُر کریں۔

never, sometime, often, usually, always

1. The post man called often.
2. They sometime come to see us.
3. She always tries to do his best.
4. The train usually arrives late.
5. I have never seen him.

L Complete the following sentences by filling in 'a' or 'an' or 'the' as may be suitable.

مندرجہ ذیل جملوں کو ضرورت کے مطابق a, an اور the لگا کر مکمل کریں۔

1. He can play a flute.
2. Copper is the useful metal.
3. He is an European.
4. His father is a SDO.
5. My brother is in the Army.
6. They run a NGO.

M Write paragraphs of 60-70 words on the following topics.

درج ذیل عنوانات پر 60 یا 70 الفاظ کا پیرا گراف لکھیں۔

1. How do I Clean My Room?

میں اپنا کمرہ کیسے صاف کرتا ہوں۔

Ans. Cleanliness is very essential. It keeps us healthy and disciplined. I keep myself neat and clean. I also clean my room dally. I do dusting and set my bed sheet properly. I usually put the things of my dally use in correct order. I put my bag at its place. I hang my uniform and other clothes in the cupboard. I arrange my books in the book shelve. In this way I clean my room almost dally.

2. The game I like the Most.

میں جو کھیل سب سے پسند ہے۔

Ans.

Games are important to keep the body and mind healthy. I play different indoor and outdoor games but cricket is my favorite game. It keeps us active and physically strong. There are 11 players in a team. Two teams compete with each other in a playground. Both the teams play their Innings. Some players are good in batting while others are perfect in bowling. There are many forms of this game like 20-20 and 50 overs match. Toss winning team has to play first and set the target for the other team. Second team has to achieve the target to win. SO, it is a group as well as energetic game.

N. Reading and Thinking Skills.

پڑھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں

An unseen reading passage may be exploited for text patterns, comprehension questions, summary skills and vocabulary.

ان دیکھا ہی آگراف ہو سکتا ہے۔ تحریر کے حصوں، جامعیت سوالات، خلاصے اور لفظی الفاظ کے لئے نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔

زبان کی مہارتیں کی مہارتیں Oral Communication Skills

Form pairs or groups (as required) and give students different situations. Ask them to prepare a dialogue for each situation and present it in the class.

مطلوبہ جوڑوں یا گروپ کی شکل میں طلبہ کو مختلف مواقع دیں ان سے کہیں کہ وہ ایک مکالمہ تیار کریں یہ موقع کے اعتبار سے اس کا مظاہرہ کرہ جماعت میں کریں۔

Lesson 5: TRAFFIC SENSE ٹریفک کا شعور

Pre-reading: پڑھنے سے پہلے کی مشق

How do you come to school? آپ سکول کیسے آتے ہیں؟
 Ans: I come to school by bus. جواب: میں بس سے سکول آتا ہوں۔
 ☆ What things do you take care of when you are on the road?

Ans: When I am on the road, I always follow traffic rules and carefully cross the road. جب آپ سڑک پر ہوتے ہیں تو کن باتوں کا دھیان رکھتے ہیں؟
 جواب: جب میں سڑک پر ہوتا ہوں تو ہمیشہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرتا ہوں اور احتیاط سے سڑک عبور کرتا ہوں۔

☆ Read the heading and tell what information you are likely to find in this lesson. عنوان پڑھیں اور بتائیں کہ آپ کو یہاں پڑھ کر کس قسم کی معلومات مل سکتی ہیں۔
 Ans: I find a lot about traffic rules and our safety on road. جواب: مجھے ٹریفک قوانین کے بارے میں بہت کچھ ملا اور سڑک پر محفوظ رہنے کے بارے میں بھی۔

Urdu Translation اردو ترجمہ

In	big cities,	hundreds	of men,	women	and	children
ان	بڑے شہروں	ہینڈروں	آف مین،	دوئین	اینڈ	چلڈرن
میں	بڑے شہروں	سینکڑوں	مرد	عورتیں	اور	بچے

die	every	year	in	road accidents
ڈالی	ایوری	ایئر	ان	روڈ ایسیڈنٹس
مارے جاتے ہیں۔	ہر	سال	میں	سڑک کے حادثات

English	Urdu
In big cities, hundreds of men, women and children die every year in road accidents.	بڑے شہروں میں ہر سال سینکڑوں عورتیں، مرد اور بچے سڑک کے حادثات میں مر جاتے ہیں۔ ان بڑے شہروں میں ہزاروں آدمی، دوئین اینڈ چلڈرن ڈالی ایوری ایئر ان روڈ ایسیڈنٹس

Accidents	are	mostly	caused by	our	carelessness.
ایسیڈنٹس	آر	موسلی	کارڈہائے	آڈور	کیئرلیس نیس
حادثات	ہوتے ہیں	زیادہ تر	کی وجہ سے	ہماری	لا پرواہی

English	Urdu
Accidents are mostly caused by our carelessness.	حادثات زیادہ تر ہماری لا پرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسیڈنٹس آرموسلی کارڈہائے آڈور کیئرلیس نیس

Someone	may	walk	into	the	road	without	looking	out	and	be	hit	by	a	vehicle.
سمن	سے	واک	ان	ٹو	دی	روڈ	ولنگ	آؤٹ	اینڈ	ہٹ	ہائے	ایئر	ایک	گاڑی
کوئی	ہو سکتا ہے	چلتا ہے	میں	سڑک	بغیر	دیکھے	دیکھنے	آؤٹ	اور	گرا جائے	ایئر	ایک	گاڑی	

English	Urdu
Someone may walk into the road without looking out and be hit by a vehicle.	کوئی ادھر ادھر دیکھے بغیر سڑک پر چلتا ہوا گاڑی سے گرا جائے۔ سمن سے واک ان ٹو دی روڈ آؤٹ ولنگ آؤٹ اینڈ ہٹ ہائے آؤٹ

Children	playing	in	a	busy	street	may	not
چلڈرن	کھیلنے	ان	ایک	مٹریٹ	سٹریٹ	سے	نات
ہیں	کھیلنے	میں	ایک	مٹریٹ	سٹریٹ	ہوتے ہیں	نہیں

be aware of a fast approaching vehicle.	آف	آ	فاسٹ	اپروچنگ	وہیکل
بی اویئر	آف	آ	فاسٹ	اپروچنگ	وہیکل
خبردار	کے	ایک	تیز	آئی ہوئی	گاڑیوں

English Children playing in a busy street may not be aware of a fast approaching vehicle.

اردو بچے ایک مصروف گلی میں کھیلتے ہوئے اور آتی ہوئی تیز گاڑیوں سے باخبر نہ ہوں۔

تلفظ چلڈرن پلے انک ان آبی سٹریٹ سے ناٹ بی اویئر آف آ فاسٹ اپروچنگ وہیکل۔

There will be fewer road accidents if people on the road have traffic sense.	دی روڈ	ہو	ڈی ٹریفک	سینس
دی روڈ	ہو	ڈی ٹریفک	سینس	
دی روڈ	ہو	ڈی ٹریفک	سینس	

English There will be fewer road accidents if people on the road have traffic sense.

اردو اگر لوگ ٹریفک کا شعور رکھتے ہوں تو سڑک کے حادثات کم ہوں گے۔

تلفظ دی روڈ وی فیر روڈ ایکیس ڈی ٹریفک سینس۔

The moment you leave your house, you are at a risk.	دی مومنٹ	یو	لیو	یور	ہاؤس	یو	آر	ایٹ	اٹ
دی مومنٹ	یو	لیو	یور	ہاؤس	یو	آر	ایٹ	اٹ	
جس لمحے	آپ	نکلتے ہیں	اپنے	گھر سے	آپ	ہوتے ہیں	خطرے میں		

English The moment you leave your house, you are at a risk.

اردو جس لمحے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ خطرے میں ہوتے ہیں۔

تلفظ دی مومنٹ یو لیو یور ہاؤس یو آر ایٹ اٹ آرک۔

It does not matter whether you walk or ride a bicycle, motor cycle or drive a car.	اٹ	ڈوئٹ	ماتر	ویڈر	یو	واک	آر	رائڈ
اٹ	ڈوئٹ	ماتر	ویڈر	یو	واک	آر	رائڈ	
اس سے	نہیں پڑتا ہے	کوئی فرق	چاہے	آپ	پیدل ہیں	یا	سوار ہیں	

a bicycle, motor cycle or drive a car.	آبائی سائیکل	موٹر سائیکل	آر	ڈرائیو	آکار
آبائی سائیکل	موٹر سائیکل	آر	ڈرائیو	آکار	
ایک سائیکل	موٹر سائیکل	یا	چلا رہے ہیں	کار	

English It does not matter whether you walk or ride a bicycle, motor cycle or drive a car.

اردو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ پیدل ہیں یا آپ سائیکل، موٹر سائیکل یا کار چلا رہے ہیں۔

تلفظ اٹ ڈوئٹ ماتر ویڈر یو واک آر رائڈ آ بای سائیکل، موٹر سائیکل آر ڈرائیو آ کار۔

Our actions and those of others on the road are responsible of our safety.	اڈور	ایکشنز	اینڈ	ڈوز	آف	اڈرز	آن	دی روڈ	آر	ریسپونسیبل	آف	اڈور	سیٹیٹی
اڈور	ایکشنز	اینڈ	ڈوز	آف	اڈرز	آن	دی روڈ	آر	ریسپونسیبل	آف	اڈور	سیٹیٹی	
ہماری	حرکات	اور	ان لوگوں	کی	دوسرے	پر	سڑک	ہیں	ذمہ دار ہیں	کی	ہماری	حفاظت	

English Our actions and those of others on the road are responsible of our safety.

اردو ہماری اور ان دوسرے لوگوں کی حرکات جو سڑک پر ہیں ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔

تلفظ اڈور ایکشنز اینڈ ڈوز آف اڈرز آن دی روڈ آر ریسپونسیبل آف اڈور سیٹیٹی۔

You can minimize the risk by following some simple rules.	یو	کان	مینیمائز	دی ریسک	بائی فلوئنگ	سم	سپل	ریلز
یو	کان	مینیمائز	دی ریسک	بائی فلوئنگ	سم	سپل	ریلز	
آپ	سکتے ہیں	کم کر	خطرے	عمل کر کے	چند	سادہ	اصولوں	

English	تلفظ	اردو
You can minimize the risk by following some simple rules:	یو کمین مینل مائزودی ریسک ہائے فالوونگ سم سہیل روٹو	چند سادہ اصولوں کی پیروی کر کے آپ اس خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔

Walk on the footpath.	on	the footpath.
واک چلیں	آن	فٹ پاتھ
	پہ	فٹ پاتھ

English	تلفظ	اردو
☆ Walk on the footpath.	واک آن فٹ پاتھ	فٹ پاتھ پر چلیں

Walk in the Right margin of the road	in	the Right margin	of	the road
واک چلیں	ان	دی رائٹ مارجن آف	دی روڈ	سڑک
	میں	دائیں کیر	سڑک	

to be aware of the oncoming traffic.	to	be aware	of	the oncoming	traffic.
ٹو ٹریفک	ٹی او ایئر	آف	دی آن کمنگ	ٹریفک	
پہ	نظر رکھیں	کا	اور آتی ہوئی	ٹریفک	

English	تلفظ	اردو
☆ Walk in the Right margin of the road to be aware of the oncoming traffic.	واک ان دی رائٹ مارجن آف دی روڈ ٹو بی او ایئر آف دی آن کمنگ ٹریفک	سڑک کے دائیں جانب چلیں اور آتی ہوئی ٹریفک پر نظر رکھیں

Wait for the traffic to stop before crossing the road.	Wait	for	the traffic	to	stop	before	crossing	the road.
ویٹ انتظار کریں	فار	دی ٹریفک	ٹو	سٹاپ	بی فور	کراسنگ	دی روڈ	
	کا	ٹریفک	کے لیے	رکنے	پہلے	عبور کرنے سے	سڑک	

English	تلفظ	اردو
☆ Wait for the traffic to stop before crossing the road.	ویٹ فار دی ٹریفک ٹو سٹاپ بی فور کراسنگ دی روڈ	سڑک عبور کرنے سے پہلے ٹریفک رکنے کا انتظار کریں۔

Wait at the zebra crossing.	Wait at	the zebra crossing.
ویٹ ایٹ انتظار کریں	ویٹ ایٹ	دی زیبرا کراسنگ
	انتظار کریں	زیبرا کراسنگ پر

English	تلفظ	اردو
Wait at the zebra crossing.	ویٹ ایٹ دی زیبرا کراسنگ	زیبرا کراسنگ پر انتظار کریں۔

Look right, then left, then right again before crossing the road.	Look right,	then	left,	then	right again	before	crossing	the road.
لگ رائٹ دائیں دیکھیں	لگ رائٹ	دین	لیفٹ	دین	رائٹ اگین	بی فور	کراسنگ	دی روڈ
	دائیں دیکھیں	پھر	بائیں	پھر	دوبارہ دائیں دیکھیں	پہلے	عبور کرتے ہوئے	سڑک

English	تلفظ	اردو
☆ Look right, then left, then right again before crossing the road.	لگ رائٹ دین لیفٹ دین رائٹ اگین بی فور کراسنگ دی روڈ	سڑک عبور کرنے سے پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں اور دوبارہ دائیں دیکھیں۔

Cross	only	when	the road	is	clear.
کراس	اوپنی	وہیں	دی روڈ	ہے	کلیئر
عبور کریں	صرف	جب	سڑک		خالی

English
 ☆ Cross only when the road is clear.
 اردو
 صرف سڑک خالی ہونے پر ہی عبور کریں۔
 کراس اوپنی وین دی روڈ اڈ کلیئر

Follow	the traffic	lights.
فالو	دی ٹریفک	لائٹس
پر عمل کریں	ٹریفک کی	روشنیوں

English
 ☆ Follow the traffic lights.
 اردو
 لائٹ کی روشنیوں پر عمل کریں۔
 فالو دی ٹریفک لائٹس

Keep	to	the left	while	cycling.
کیپ	تو	دی لیفٹ	وائیل	سائیکلنگ
ریں	کی طرف	ہائیں جانب	کے دوران	سائیکل چلانے

English
 ☆ Keep to the left while cycling.
 اردو
 سائیکل چلاتے ہوئے ہائیں جانب رہیں۔
 کیپ تو دی لیفٹ وائل سائیکلنگ

Do not	ride	a cycle	on	the main	road.
ڈونٹ	رائڈ	آسائیکل	ان	دی مین	روڈ
مت	چلائیں	سائیکل	پہ	مرکزی	سڑک

English
 ☆ Do not ride a cycle on the main road.
 اردو
 مرکزی سڑک پر سائیکل مت چلائیں۔
 ڈونٹ رائڈ آسائیکل ان دی مین روڈ

Give	a signal	before	turning.
گیو	آہسگنل	بی فور	ٹرننگ
دیں	اشارہ	سے پہلے	مڑنے

English
 ☆ Give a signal before turning.
 اردو
 مڑنے سے پہلے اشارہ دیں۔
 گیو آہسگنل بی فور ٹرننگ

Never	run	on	the road.
نیور	رن	آن	دی روڈ
مت	بھائیں	پہ	سڑک

English
 ☆ Never run on the road.
 اردو
 سڑک پر مت بھائیں۔
 نیور رن آف دی روڈ

When	you	wait	for	a bus,	stand	in	a queue.
وین	یو	ویٹ	فار	آ بس	سٹینڈ	ان	آ کیو
جب	آپ	انتظار کرنے	کے لئے	بس کا	کھڑے ہوں	میں	قطار

English
 ☆ When you wait for a bus, stand in a queue.
 اردو
 بس کا انتظار کرنے کے لئے قطار میں کھڑے ہوں۔
 وین یو ویٹ فار آ بس سٹینڈ ان آ کیو۔

Do not	get in	or	off	in	a moving	bus.
ڈونٹ	گیٹ ان	آر	آف	ان	آموونگ	بس
نہ	سوارہوں	یا	اتریں	میں	چلتی ہوئی	بس

English	تلفظ	اردو
☆ Do not get in or off in a moving bus.	ڈونٹ گیٹ ان آف آموونگ بس۔	چلتی ہوئی بس میں سوارہوں نہ اتریں۔

When	in	a bus,	do not	lean out	of	the door	or	window.
وین	ان	آبس	ڈونٹ	لین آؤٹ	آف	دی ڈور	آر	ونڈو
جب	میں ہوں	آپ بس	سے مت	جھانکیں	کی	دروازے	یا	توکڑکی

English	تلفظ	اردو
☆ When in a bus, do not lean out of the door or window.	وین ان آپس، ڈونٹ لین آؤٹ دی ڈور آرونڈو۔	جب بس میں ہوں تو کڑکی یا دروازے سے مت جھانکیں۔

You	may	fall	or	hurt	yourself.
یو	ے	فال	آر	ہرٹ	یوئر سیلف
آپ	سکتے ہیں	گر	یا	زخمی کر سکتے ہیں	خود کو

English	تلفظ	اردو
You may fall or hurt yourself.	یوے فال آر ہرٹ یوئر سیلف	آپ گر سکتے یا خود کو زخمی کر سکتے ہیں۔

At a level-crossing, never try to cross the railway track when the gate is closed.										
ایٹ آ	لیول کراسنگ	نیور	ٹرائی	ٹو کراس	دی ریلوے	ٹریک	وین	دی گیٹ	از	کلوزڈ
ہوتو	کرنے کی	نہ کریں	کوشش	عبور	ریلوے کی	پٹری	جب	پھانک	ہے	بند

English	تلفظ	اردو
☆ At a level-crossing, never try to cross the railway track when the gate is closed.	ایٹ آ لیول کراسنگ نیور ٹرائی ٹو کراس دی ریلوے ٹریک وین دی گیٹ ان کلوزڈ۔	ریلوے پھانک پر، جب پھانک بند ہو تو ریل کی پٹری عبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔

While Reading:

- Q: Which crowded places do you go to?
 Ans: I go to market and parks etc.
 Q: Do you follow these rules while using a road?
 Ans: Yes! I do because these are for our safety.

پڑھنے کے دوران:
 آپ کون سی بھونگ والی جگہوں پر جاتے ہیں؟
 جواب: میں مارکیٹ اور پارک وغیرہ میں جاتا ہوں۔
 سڑک پر کیا آپ ان قوانین کی پیروی کرتے ہیں؟
 جی میں کرتا ہوں کیوں کہ یہ ہمارے تحفظ کے لئے ہیں۔

Many	big	cities	have	traffic	lights.
مینی	بگ	سٹیز	ہیو	ٹریفک	لائٹس
بہت سے	بڑے	شہروں میں	ہیں	ٹریفک	کی روشنیاں

English	تلفظ	اردو
Many big cities have traffic lights.	مینی بگ سٹیز ہیو ٹریفک لائٹس	بہت سے بڑے شہروں میں ٹریفک کی روشنیاں ہیں۔

Always	obey	the traffic	lights	for	road safety.
آلویز	اوبے	دی ٹریفک	لائٹس	فار	دی روڈ سیفٹی
ہمیشہ	پر عمل کریں	ٹریفک	روشنیوں	کے لئے	سڑک پر محفوظ رہنے

English	تلفظ	اردو
Always obey the traffic lights for road safety.	آلوین او بے دی ٹریفک لائٹس فار روڈ سیٹھٹی	ٹرک پر مھوظ رہنے کے لئے ٹریفک کے اشاروں پر عمل کریں۔

If	there	is	red light,	you	must	stop.
اف	دیر	ار	ریڈ لائٹ	یو	مسٹ	سٹاپ
اگر	تو	ہے	اشارہ سرخ	آپ	کو چاہیے	رک جائیں

English	تلفظ	اردو
If there is red light, you must stop.	اف دیر ار ریڈ لائٹ یو مسٹ سٹاپ۔	اگر اشارہ سرخ ہو تو رک جائیں۔

When	the light	turns yellow,	you	must	get	ready
وین	دی لائٹ	ٹرنز ییلو	یو	مسٹ	گیٹ	ریڈی
جب	اشارہ	پیلا ہو جائے	تو	چاہیے	ہو جائیں	تیار

without	moving	your	bicycle	or	vehicle.
وڈ آؤٹ	موونگ	یور	بائی سائیکل	یا	ویکیل
بغیر	کو حرکت دیے	اپنے	سائیکل	یا	گاڑی

English	تلفظ	اردو
When the light turns yellow, you must get ready without moving your bicycle or vehicle.	وین دی لائٹ ٹرنز ییلو یو مسٹ گیٹ ریڈی وڈ آؤٹ موونگ یور ہائی سائیکل اور ویکیل۔	جب اشارہ پیلا ہو جائے تو گاڑی یا سائیکل کو حرکت دیے بغیر تیار ہو جائیں۔

Move on,	when	the light	turns	green.
موو آن	وین	دی لائٹ	ٹرنز	گرین
تو آگے بڑھیں	جب	اشارہ	ہو جائے	ہبز

English	تلفظ	اردو
Move on, when the light turns green.	موو آن وین دی لائٹ ٹرنز گرین۔	جب اشارہ ہبز ہو جائے تو آگے بڑھیں۔

Violation	of	these	rules	may	cause	serious	accidents.
وائے لیشن	آف	دیز	رولز	ے	کاز	سی ریزز	ایسی ڈنٹس
خلاف ورزی	کی	ان	قوانین	بن سکتی ہے	کاباعث	بڑے	حادثات

English	تلفظ	اردو
Violation of these rules may cause serious accidents.	وائے لیشن آف دیز رولز ے کاز سی ریزز ایسی ڈنٹس	ان قوانین کی خلاف ورزی بڑے حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔

Many more	traffic	rules	and	road	signs	are
منی مور	ٹریفک	رولز	اینڈ	روڈ	سائز	آر
بہت سے	ٹریفک	قوانین	اور		علامتیں	ہیں

there	for	you	to develop	a traffic	sense.
دیر	فار	یو	ٹو ڈی ویلوپ	آ ٹریفک	سنس
وہاں	کرنے کے لئے	آپ	اجاگر کرنے کو	ٹریفک	کاشور

English	تلفظ	اردو
Many more traffic rules and road signs are there for you to develop a traffic sense.	یعنی سو روٹریک اور روڈ سائنز آردیئر فار یو ٹو ڈیولپ ا ٹریفک سانس	ٹریک کا شعور جا کر کرنے کو آپ کے لئے بہت سے قوانین اور علامتیں ہیں۔

Some	of	them	are	given	below.
کچھ	آف	ان میں	ہیں	دیئے	نیچے
سم	آف	دیم	آر	گیون	بیلو

English	تلفظ	اردو
Some of them are given below.	سم آف دیم آر گیون بیلو	ان میں سے کچھ نیچے درج ہیں۔
















Read	and	understand	the message	they	give.
ریڈ	اینڈ	انڈر سٹینڈ	دی سےج	دے	گیو
پڑھیں	اور	سمجھیں	جو پیغام	وہ	دیتے ہیں

English	تلفظ	اردو
Read and understand the message they give.	ریڈ اینڈ انڈر سٹینڈ دی سےج دے گیو	جو پیغام وہ دیتے ہیں ان کو پڑھیں اور سمجھیں۔

While Reading: پڑھنے کے دوران:

Q: Do you understand the message of the road signals? کیا آپ سڑک کے اشاروں کے پیغامات سمجھتے ہیں؟

Ans: Yes I-do. جواب: جی میں سمجھتا ہوں۔

		
Path for cyclists سائیکل سواروں کا راستہ	Pedestrian part پیڈل چلنے والوں کے لئے	Zebra crossing سڑک پار کرنے کا راستہ
		
Two-way traffic دو طرفہ ٹریفک	Give way راستہ دیں	Stop رگ جائیں
		
No entry of cyclists سائیکل سواروں کا داخلہ ممنوع ہے	No pedestrians پیڈل چلنے والوں کے لئے نہیں	No parking پارکنگ ممنوع
		
Turn right دائیں مڑیں	Go straight / turn right سیدھا جا جائیں / دائیں مڑیں	Turn left بائیں مڑیں
		
Go straight / turn left سیدھا جا جائیں اور بائیں مڑیں	Round about گول چکر	U turn واپسی موڑ

Vocabulary ذخیرہ الفاظ

A Look up the meaning of the following words in dictionary. Use these words in sentences.

مندرجہ ذیل الفاظ کے کوشنری میں معانی دیکھیں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔
safely, carelessness, minimize, risk, queue

safely	محتوط	we should cross road safely.
careless-ness	لا پرواہی	Our carelessness causes trouble.
minimize	کم سے کم	You can minimize risk by following the traffic rule.
risk	خطرہ	You are not at risk
queue	تظار	Always follow the queue.

B Find synonyms and antonyms of the following words in thesaurus.

لغت میں درج ذیل کے مترادف اور متضاد تلاش کریں۔

Word	Synonyms	Antonyms
sense	feeling, perception	senseless
serious	grave, sober	mild
violate	injure, disobey	obey
signal	mark, indication	Signless
develop	exhibit, grow	under develop

C Make as many words as you can using the letters of the following words. You can change the order of the letters. You can also use any letter more than once.

مندرجہ ذیل الفاظ کے حروف استعمال کرتے ہوئے جتنے الفاظ آپ بنا سکتے ہیں بنائیں۔ تم حروف کی ترتیب بدل سکتے ہو۔ تم کسی بھی حرف کو ایک سے زیادہ بار استعمال کر سکتے ہو۔

Word weather (W,E,A,T,H,E,R)
Examples: (i) we (ii) wet (iii) ear
Ans. We, wet, at, the, tear, wheat, rat, ear, wear.

Word feature (F,E,A,T,U,R,E)
Examples: (i) at (ii) tea (iii) true
Ans. at, tea, tree, true, fat, rat, feet, rear, fear.

Word climate (C,L,I,M,A,T,E)

Examples: (i) late (ii) cat (iii) ate
Ans. late, cat, mat, meat, tea, at, came, mate.

Reading for Comprehension پڑھ کر سمجھنا

A Answer the following questions.
مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔

1. What are the causes of traffic accidents?
ٹریفک کے حادثات کی کیا وجوہات ہیں؟

Ans. Causes of traffic accidents are as under:
ٹریفک حادثات کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں:

- (i) Our carelessness. ہماری لا پرواہی۔
- (ii) Violation of traffic rules. ٹریفک کے اصولوں کو توڑنا۔
- (iii) Ignorance of traffic sense. ٹریفک کے شعور سے لاعلمی۔

2. How can we avoid accidents?
ہم حادثات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

Ans. We can avoid accidents if we are careful on the road.

اگر ہم ہوش و حواس سلامت رکھیں تو ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں۔

3. What is the importance of traffic lights?
ٹریفک کے اشاروں کی کیا اہمیت ہے؟

Ans. These lights guide us about traffic movement.

یہ اشارے ہمیں ٹریفک کی حرکات بتاتے ہیں۔

4. How is the traffic controlled in big cities?
بڑے شہروں میں ٹریفک پر کیسے قابو پایا جاتا ہے؟

Ans. In big cities, traffic is controlled by traffic lights.


ملاحظہ: بڑے شہروں میں ٹریفک کو اشاروں کے ذریعے ٹریفک کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔

5. What should the driver do when there is a red light?
جب اشارہ سرخ ہو تو ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے؟

Ans. Driver must stop.
ڈرائیور کو روک جانا چاہیے۔

B Tick (✓) the correct option.
درست جواب کا انتخاب کریں اور (✓) کا نشان لگائیں

1. Accidents are caused by:
- (a) crowded roads
 - (b) traffic jams
 - (c) carelessness of the people
 - (d) rash driving

2. Do not walk on the road:
- (a) if there are so many people
 - (b) if there is a pavement
 - (c) if there is a traffic jam
 - (d) if you are in a hurry
3. Zebra crossings are:
- (a) for the safety of the pedestrian
 - (b) for traffic control
 - (c) for the decoration of road
 - (d) for people to cross the road
4. When the light turns yellow:
- (a) we must stop and wait
 - (b) we must move on
 - (c) we must get ready without moving
 - (d) we must keep an eye on the light
5. The number of accidents can be decreased:
- (a) if the people have traffic sense
 - (b) if the people are more careful
 - (c) if the people do not walk into the road
 - (d) if the people walk only on pavements
6.  is the road sign of:
- (a) path for the cyclist
 - (b) pedestrian path
 - (c) no parking
 - (d) no entry for the cyclist

Grammar قواعد

Adjective: اسم صفت

An Adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun. There are eight kinds of Adjectives in terms of nature.

صفت ایک لفظ ہے جو اسم یا اسم ضمیر کے لئے استعمال ہوتا ہے قدرتی لحاظ سے اسم صفت آٹھ قسم کے ہیں۔

1. Proper Adjectives: خاص اسم صفت

It is formed from a proper noun.

یہ خاص نام سے بنتے ہیں۔
For example: Asian, Pakistani, English, American, Punjabi, Bengali, etc.

مثلاً ایشیائی، پاکستانی، انگریزی، امریکی، پنجابی، بنگالی وغیرہ۔

This is the grammar of the English language.

یہ انگریزی زبان کی گرامر ہے۔
Pakistani mango is better than Indian mango.

پاکستانی آم بھارتی آم سے بہتر ہے۔

2. Adjective of Quality: خاصیت اسم صفت

It denotes the quality, weakness or state of a person or a thing.

یہ کسی شخص یا چیز کی حالت، کمزوری یا خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔
For example: good, bad, large, wise, rich, poor, foolish, cold, warm, etc.

مثلاً اچھا، بُرا، بڑا، عقل مند، امیر، غریب، بیوقوف، ٹھنڈا، گرم وغیرہ
Quaid-i-Azam was a wise man.

قائد اعظم محمد اقبال ایک ذہین انسان تھے۔
She is an honest woman.

3. Adjective of Quantity: تعدادی اسم صفت

It denotes the quantity of a thing or an idea.

یہ کسی سوچ اور چیز کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔
For example: much, some, little, huge, all, any, full, half, whole, no, enough, etc.

مثلاً: زیادہ، کچھ، تھوڑا، بہت، بڑا، سب، کوئی، پورا بھرا ہوا، آدھا، تمام نہیں، کافی وغیرہ۔
He has lost all his wealth.

وہ اپنی ساری دولت کھو چکا ہے۔
You have no sense.

4. Numeral Adjective: عددی صفت

It denotes the number of persons or things.

یہ شخص یا چیز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔
For example: one, two, three, first, second, third, all, any, some, many, each, several, every, certain, etc.

مثلاً ایک، دو، تین، پہلا، دوسرا، تیسرا، تمام، کوئی، کچھ، زیادہ، ہر ایک، بہت زیادہ، ہر ایک، کچھ وغیرہ۔

Some dreams are like reality.
کچھ خواب حقیقت جیسے ہوتے ہیں۔

Farah won the second prize.
فرح نے دوسرا انعام جیت لیا۔

5. Demonstrative Adjective: مظاہری صفت

It points out which person or thing is meant.

یہ مطلوبہ شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
For example: this, that, these, those, such, etc.

This girl is younger than Salman.
مثلاً یہ، وہ، یہ (زیادہ)، وہ (زیادہ)، ایسے وغیرہ۔

یہ لڑکی سلمان سے چھوٹی ہے۔
I hate such things.

میں ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہوں۔

6. Distributive Adjective: تقسیمی صفت

It denotes a person or a thing separately.

یہ شخص یا چیز کو الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔

For example: each, every, either, neither, every

ہر ایک، ہر ایک، یا یہ، کوئی نہیں، ہر ایک

Each girl will get a prize.

Every dog has his day. ہر کتے کا اپنا دن ہوتا ہے۔

7. Interrogative Adjective: سوالیہ صفت

It is used before a noun for asking a question.

یہ ایک اسم سے پہلے سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

For example: whose, which, what

مثلاً کس کا، کون سا، کیا۔

Whose pen is this? یہ کس کا پین ہے؟

Which shirt is your? تمہاری قمیص کون سی ہے؟

8. Possessive Adjective: مملکتی صفت

It denotes possession. یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔

For example: my, our, your, his, her, their, etc.

مثلاً: میرا، ہمارا، تمہارا، اس لڑکے کا، اس لڑکی کا، ان کا وغیرہ۔

This is his bag. یہ اس کا بستہ ہے۔

It is my book. یہ میری کتاب ہے۔

A Underline the Adjectives in the following sentences and write to which class each of them belongs.

درج ذیل میں سے صفت کو خط کشیدہ کریں اور لکھیں کہ یہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔

1.	I ate <u>some</u> rice.	Quantity
2.	<u>All</u> men must <u>die</u> .	Quantity
3.	These grapes are <u>sour</u> .	Demonstrative
4.	Lahore is a <u>large</u> city.	Quality
5.	<u>Which</u> way shall we go?	Interrogative
6.	<u>Each</u> boy got a prize.	Distributive
7.	I like <u>enough</u> sugar.	Quantity
8.	This is <u>her</u> coat.	Possessive
9.	I like a <u>Chinese</u> dish.	Proper
10.	Akram is a <u>clever</u> boy.	Quality

Formation of Adjectives: صفت کی بنیاد

Adjectives are formed from nouns.

صفت نام سے بنتے ہیں۔

For example:

Noun		Adjective	
child	بچہ	childish	بچگانہ
fool	اجت	foolish	اجتفانہ
dirt	گند/مٹی	dirty	گندرا
hope	امید	hopeful	پُر امید
education	تعلیم	educational	تعلیمی
man	آدی	manly	انسانیت
ease	آسان	easy	آسانی
trouble	تکلیف	troublesome	تکلیف دہ
laugh	ہنسا	laughable	ہنسنے کے قابل
peace	امن	peaceful	پرامن

B Use the following adjectives in sentences.

درج ذیل اسامہ صفت کو جملوں میں استعمال کریں۔

educational, childish, popular, easy, foolish, glorious

Educational	This is an educational age.
childish	He has childish sense
popular	His popularity is falling.
easy	This is an easy way.
foolish	Don't talk foolish.
glorious	This is a glorious achievement.

Pronunciation: تلفظ

A syllable is a word or a word segment that is pronounced as a single sound. Some words have one syllable (air, fish, walk). Some have two syllables (ques-tion, wa-ter, boy-cott). Some have three syllables (con-tin-ue, ne-ga-tive, ex-ce-llent).

رکن چینی ایک لفظ یا لفظ کا حصہ ہوتا ہے جو ایک آواز ہوتا ہے۔ بعض الفاظ کا ایک ہی رکن چینی ہوتا ہے (air, fish, walk) بعض کے دو رکن چینی ہوتے ہیں (ques-tion, wa-ter, boy-cott) بعض کے تین رکن چینی ہوتے ہیں (con-tin-ue, ne-ga-tive, ex-ce.llent)

G Write the following words in columns according to their syllables with the help of a dictionary.

دشتری کی مدد سے درج ذیل الفاظ کو ان کے حصوں کے مطابق کالموں میں لکھیں۔


school, bicycle, represent, doctor, medicine, replica, rough, oral, patient, important, desert, understand, designate, chalk, comprehend

One Syllable	Two Syllables	Three Syllables
school	understand, designate	bicycle
rough	replica	medicine
desert	doctor	important
chalk	oral	comprehend
	patient	represent

Writing Skills لکھنے کی مہارتیں

A Write a paragraph of 60-70 words on 'A Roadside Accident'. First make a mind map and add appropriate key words and structure to develop the paragraph.

سڑک پر ایک حادثہ کے بارے میں 60 سے 70 الفاظ کا پیرا گراف تحریر کریں۔ پہلے اس کا مافی خاکہ تیار کریں اور مناسب الفاظ شامل کرتے ہوئے اسے پیرا گراف کی شکل دیں۔



Ans. A Roadside Accident:

On 12th instant, I was returning from school at 3p.m. I saw a car coming at a high speed near the civil hospital. At the same time a motor cyclist appeared from the other side. The car hit the motorcycle. The motorcyclist was thrown

away. He was badly injured. The motorcycle was broken into pieces. Many people gathered there. They were sad at the time of accident. Soon the police arrived. Rescue 1122 came and took the injured person to the hospital. The driver of the car was arrested. The police officer took down the statements. All the people prayed for the safety of the injured person.

B Write a short paragraph on this scene.

اس منظر کے ادھر ایک پیرا گراف لکھیں۔



Ans. This is the scene of level-crossing. The train is coming. The gate of the level-crossing is being closed automatically. The traffic on both sides is stopped. The drivers are waiting. No one tries to cross the railway track when the gate is closed. It is very necessary to avoid any mishap. We should be very careful while on road. A little carelessness may become the cause of some serious accident.

Oral Communication Skills زبانی گفتگو کی مہارتیں

Bilal: Good morning!	بلال: صبح بخیر
Booking Clerk: Good morning! May I help you?	بکٹنگ کلرک: صبح بخیر! کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔
Bilal: Would you give me a ticket to Hiran Minar, please?	بلال: کیا آپ مجھے ہرن منار کے ٹکٹ دیں گے مہربانی کر کے۔

Booking Clerk: Certainly. Do you want to travel by our tourist bus?	ٹکٹ ہایو: ہانکل کیا آپ ہماری سٹری بس میں جائیں گے۔
Bilal: Will there be any guide in your tourist bus?	بلال: کیا آپ کی سٹری بس میں کوئی رہنما موجود ہوگا؟
Booking Clerk: Yes, of course.	ٹکٹ ہایو: جی ہانکل
Bilal: How much will it cost for the trip?	بلال سفر کا کتنا خرچ ہوگا۔
Booking Clerk: It will cost Rs. 500/- for a day including food charges.	ٹکٹ ہایو: اس پر 500 روپے خرچ آئے گا جس میں کھانا بھی شامل ہے۔
Bilal: Here's the money, please.	بلال: یہ لیں پیسے۔
Booking Clerk: Here's the ticket.	ٹکٹ ہایو: یہ لیں ٹکٹ۔
Bilal: Thank you!	بلال: آپ کا شکریہ!
Booking Clerk: Thank you very much.	ٹکٹ ہایو: آپ کا بہت شکریہ۔

Group Activity

اجتماعی سرگرمی

Arrange the class in groups and discuss traffic rules. Each group may prepare a presentation on "Road Safety".

کلاس کو گروپ کی صورت میں اکٹھا کریں اور ٹریفک کے بارے میں بات چیت کریں۔ یہ گروپ "سڑک کا تحفظ" پر عملی مظاہرہ پیش کرے۔

Suggested Reading

تجویز کردہ مطالعہ

King Solomon's Mines by H Rider Haggard

Glossary

اصطلاحات

accident	حادثہ	something unlucky that happens by chance.
aware	آگاہی	knowing or realizing.
lane	راستہ	division of a wide road, marking a passage.

level crossing	ریل گاڑی کا راستہ	a place where a road crosses a railway / railroad line.
moment	لحظہ	very short period of time.
minimize	کم	to reduce something to a minimum.
pedestrian	پیدل	a person walking on road and not travelling in a vehicle.
queue	قطار	a line of people, vehicles etc.
railway track	ریلوے کا راستہ	two parallel rails for train.
risk	خطرہ	possibility of some bad happening.
safety	تحفظ	the state of being safe.
signal	اشارہ	any device or object placed to control traffic.
straight	سیدھا	not curved or bent; in a straight line, direct.
sense	شعور	an understanding about something.
traffic	ٹریفک	vehicles on road at particular time.
vehicle	گاڑی	a thing used for transporting people from one place to another e.g., car, truck.
violation	خلاف ورزی	going against or refusing to obey a law.
zebra crossing	زبرا کراسنگ	area of road marked by black and white stripes for people to walk across.

Test Preparation

امتیحانی تیاری

☆ Read the given paragraph and answer the question no. 1 - 5.

There will be fewer road accidents if people on the road have traffic sense. The moment you leave your house, you are at a risk. It does not matter whether you walk or ride a bicycle, motor cycle or drive a car. Our actions and those of others on the road are responsible of our safety. Our actions and

those of others on the road are responsible of our safety.

1. You are at a _____.
 (a) stand (b) doubt
 (c) risk (d) side
2. It does not _____.
 (a) care (b) go
 (c) fare (d) matter
3. Our actions are responsible for our _____.
 (a) safety (b) car
 (c) bike (d) selves
4. We should have traffic _____.
 (a) rout (b) license
 (c) sense (d) light
5. The meaning of "fewer" is:
 (a) less (b) more
 (c) many (d) enough
6. He began to row in search of _____ land.
 (a) near (b) nearer
 (c) the nearest (d) more near
7. Gold is the _____ precious metal.
 (a) much (b) most (c) more (d) in
8. Red roses are _____ beautiful than the white ones:
 (a) very much (b) more (c) much (d) most
9. Football is the _____ favourite sport of the Europeans.
 (a) more (b) much (c) most (d) many
10. They all go out looking for _____ good restaurant:
 (a) an (b) the (c) a (d) up
11. The group of words with all adjectives is:
 (a) game, great, pen, book
 (b) nation, good, house, ugly
 (c) great, ugly, big, small
 (d) great, show, help, teach

12. The sentence with the correct degree of the adjective is:

- (a) A hare runs fast than a tortoise.
 (b) A hare runs faster than a tortoise.
 (c) A hare runs fastest than a tortoise.
 (d) A hare runs more fast than a tortoise.
13. Choose the correct degree of adjective to complete the sentence.
 Aslam is the _____ of all the boys.
 (a) tall (b) taller (c) tallest (d) the most tallest
14. Aslam is _____ his brother.
 (a) tall (b) taller than (c) tallest (d) the tallest
15. Iron is one of the _____ metals.
 (a) hard (b) harder (c) hardest (d) hards
16. Iron is _____ than wood.
 (a) heavy (b) heavier
 (c) heaviest (d) the heaviest
17. The discovery of the law of gravitation made Newton very _____.
 (a) notorious (b) famous
 (c) administrative (d) scholar
18. Sonia's dress is _____ than mine.
 (a) beautiful (b) more beautiful
 (c) most beautiful (d) the Most beautiful
19. Diamond is one of the _____ metals.
 (a) hard (b) harder
 (c) hardest (d) more Hard
20. This is the _____ model of the mobile.
 (a) later (b) latest
 (c) late (d) more Late
21. Red roses are _____ than white or black roses.
 (a) beautiful (b) more beautiful
 (c) most beautiful (d) the most beautiful
22. Irfan is _____ student of the class.
 (a) more intelligent (b) intelligent
 (c) the most intelligent (d) intelligent

Lesson 6: POLLUTION آلودگی

Pre-reading: پڑھنے سے پہلے کی مشق

Read the heading and tell what information you are likely to get from the lesson.
 دوران کو پڑھ کر بتائیں کہ سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا معلومات ملیں؟

Ans: I get a lot of information about pollution and its effect.
 جواب: مجھے آلودگی کے بارے میں معلومات اور اس کے اثرات کے بارے میں پتا چلا۔

☆ How is pollution harmful for us?
 آلودگی ہمارے لئے کس طرح نقصان دہ ہے؟
 Ans: Pollution is a cause of various disease.
 جواب: آلودگی بہت سی بیماریوں کی وجہ ہے۔

Urdu Translation اردو ترجمہ

Pollution	is	the addition	of	any such	constituents	to	air.
پولیوشن	از	دی ایڈیشن	آف	ایسی ج	کوئی ٹوائینٹ	نو	ایئر
آلودگی	ہے	کا اضافہ	کا	ایسے	عناصر	کی طرف	ہوا

water	or	land	which	adversely	alters	the natural	quality	of	environment
واٹر	آر	لینڈ	وج	ایڈورسلی	الٹرز	دی نیچرل	کوالٹی	آف	انوائرنمنٹ
پانی	اور	زمین	کے ایسے	کوئی طرح	متاثر کر رہے ہیں	قدرتی	حسن	کے	ماحول

English	اردو
Pollution is the addition of any such constituents to air, water or land which adversely alters the natural quality of environment.	آلودگی ہوا پانی اور زمین کے ایسے عناصر کا اضافہ ہے جو کہ ماحول کے قدرتی حسن کو کمی کی طرح متاثر کر رہے ہیں۔ پولیوشن آڈی ایڈیشن آف ایسی ج کوئی ٹوائینٹس ٹو ایئر واٹر اور لینڈ وج ایڈورسلی الٹرز دی نیچرل کوالٹی آف انوائرنمنٹ۔

Pollution	is	a serious	problem	of	modern	age.
پولیوشن	از	آسیریس	پرابلم	آف	ماڈرن	ایج
آلودگی	ہے	ایک سنگین	مسئلہ	کا	جدید دور	

English	اردو
Pollution is a serious problem of modern age.	آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ پولیوشن از آسیریس پرابلم آف ماڈرن ایج۔

With	rapidly	increasing	industries	especially	in	developing
دو	سپڈلی	انگریزنگ	انڈسٹریز	اسپیشلی	ان	ڈویلپنگ
ساتھ	تیزی سے	بڑھتی ہوئی	صنعتیں	خاص طور پر	میں	ترقی پذیر

countries,	the problems	is	of	great	magnitude.
کنٹریز	دی پرابلمز	از	آف	گریٹ	میگنیٹیوڈ
ممالک	مسئلہ	کے	کی	اختیار	خطرناک شکل

English	اردو
With rapidly increasing industries especially in developing countries, the problems is of great magnitude.	تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعتیں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں یہ مسئلہ خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ دو سپڈلی انگریزنگ انڈسٹریز اسپیشلی ان ڈویلپنگ کنٹریز دی پرابلمز از آف گریٹ میگنیٹیوڈ۔

While Reading: پڑھنے کے دوران:
 Q: What is meant by 'adversely alters'?
 "adversely alters" کا کیا مطلب ہے؟
 Ans: It means to change of something in bad shape.
 جواب: اس کا مطلب کسی چیز کو تیزی سے بری شکل میں تبدیل ہونا ہے۔

After	the scientific	and	Industrial	revolution,	there
آفر	دی سائنٹفک	اینڈ	انڈسٹریل	ریولوشن	دیر
کے بعد	سائنسی	اور	صنعتی	انقلاب	وہاں

has been	an immense	impact	of	man	on environment.
ہمیں	این ایمنس	ام پیکٹ	آف	مین	آن انوائرنمنٹ
پڑا ہے	بہت گہرا	بہت اثر	کا	انسان	ماحول پر

English
After the scientific and industrial revolution, there has been an immense impact of man on environment.

اردو
سائنسی اور صنعتی انقلاب کے بعد ماحول پر انسان کا بہت گہرا اثر پڑا ہے۔

Huge	industrial	installations,	introduction	of faster	modes	of transport	and spreading
ہیوج	انڈسٹریل	انسٹالیشن	انٹروڈکشن	آف فاسٹر	موڈز	آف ٹرانسپورٹ	اینڈ سپریڈنگ
بڑی	صنعتوں کا	پھیلاؤ	تعارف	کاتیز	ذرائع	آمدورفت	اور پھیلاؤ

of large	crowded	cities	are	the main	outcomes	of	the modern	times.
آف لارج	کراؤڈ	سٹیز	آر	دی مین	آؤٹ کومز	آف	دی ماڈرن	ٹائمز
بڑے	پرہجوم	شہروں	ہیں	اہم نتیجے	کا	جدید	دور	

English
Huge industrial installations, introduction of faster modes of transport and spreading of large crowded cities are the main outcomes of the modern times.

اردو
ہیوج انڈسٹریل انسٹالیشن انٹروڈکشن آف فاسٹر موڈز ڈ آف ٹرانسپورٹ اینڈ سپریڈنگ آف لارج کراؤڈ سٹیز آردی مین آؤٹ کومز ڈ آڈی ماڈرن ٹائمز کا اہم نتیجہ ہیں۔

Kinds	of	Pollution:
کائڈز	آف	پولوشن
اقسام	کی	آلودگی

English
Kinds of Pollution:

اردو
کائڈز آف پولوشن

Pollution	is	a threat	to	life.
پولوشن	از	آٹھریٹ	نو	لائف
آلودگی	ہے	ایک خطرہ	کے لئے	زندگی

English
Pollution is a threat to life.

اردو
پولوشن اڈ آٹھریٹ لو لائف ہے۔

There	are	many	kinds	of	pollution.
دیر	آر	مینی	کائڈز	آف	پولوشن
	ہیں	بہت سی	اقسام	کی	آلودگی

English
There are many kinds of pollution.

اردو
دیر آر مینی کائڈز آف پولوشن

Air	Pollution:
ایئر	پولوشن
ہوائی	آلودگی

English
Air Pollution:

اردو
ایئر پولوشن

English
Air Pollution:

اردو
ہوائی آلودگی

Air pollution	is	a problem	particularly	for	the people	living	in
ایئر پولوشن	ار	آپراہم	پارٹی کولری	فار	دی بی پی	لوگ	ان
ہوائی آلودگی	ہے	مسئلہ	خاص طور پر	کے لئے	افراد	رہتے	میں
large cities	or	in	the cities	where	there	are	many industries.
لارج سٹیز	آر	ان	دی سٹیز	ڈیر	ڈیر	آر	مئی
بڑے شہروں	یا	میں	شہروں	جہاں	وہاں	ہیں	زیادہ ہیں
English			تلفظ			اردو	
Air pollution is a problem particularly for the people living in large cities or in the cities where there are many industries.			ایئر پولوشن اذراہم پارٹی کولری فار دی بی پی مئی لوگ ان لارج سٹیز آر دی سٹیز ڈیر ڈیر آر مئی ان شہروں جہاں وہاں ہیں زیادہ ہیں۔			ہوائی آلودگی خاص طور پر ان افراد کے لئے مسئلہ ہے جو بڑے شہروں میں یا ان شہروں میں رہتے ہیں جہاں صنعتیں زیادہ ہیں۔	

The air	above	such places	is	heavily	laden	with
دی ایئر	اوپر	جگہ ایسے	ار	ہیوی لی	لیڈن	وڈ
ہوا	کی	ان جگہوں	ہے	زیادہ	بھری	سے
dust,	smoke,	poisonous gases,	and	offensive odours.		
ڈسٹ	سموک	پوزنوس گیسز	اینڈ	آفسینس اوڈرز		
گرد	دھوئیں	زہریلی گیسوں	اور	ناخوشگوار بوئیں		
English			تلفظ			اردو
The air above such places is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases, and offensive odours.			دی ایئر اویچ ایسے جگہوں کی ایئر اوڈرز سموک پوزنوس گیسز آفسینس اوڈرز۔			ان جگہوں کی ہوا گرد، دھوئیں، زہریلی گیسوں اور ناخوشگوار بوئوں سے بھری ہوتی ہے۔

It	affects	both	plants	and	human life	directly	and	indirectly.
اٹ	اٹکنس	بوتھ	پلانٹس	اینڈ	ہیومن لائف	ڈائرکٹلی	اینڈ	انڈیرکٹلی
یہ	اثر انداز ہوتی ہے	دونوں	پودوں	اور	انسانی زندگی	میدیا واسطہ	یا	بلواسطہ
English			تلفظ			اردو		
It affects both plants and human life directly and indirectly.			اٹ اٹکنس بوتھ پلانٹس اینڈ ہیومن لائف ڈائرکٹلی اینڈ انڈیرکٹلی۔			یہ پلانٹس یا بلواسطہ پودوں اور انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔		

While Reading:

Q: What is the impact of pollution on plants and human life?
 پھلند اور انسانوں کی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر ہے؟
 Ans: It is badly damaging both human and plants.
 جواب: یہ پودے اور انسان دونوں ہی کو تیزی طرح نقصان دے رہی ہے۔

Air pollution	can be	controlled by	the use	of	special	devices
ایئر پولوشن	کین بھی	کنٹرولڈ ہائے	دی یوز	آف	سپیشل	ڈیوائسز
ہوائی آلودگی	سکتا ہے	پر قابو پایا	استعمال	کے	خاص	آلات
in	the factories	to	remove	poisonous gases	from	
ان	دی فیکٹریز	ٹو	ری موو	پوزنوس گیسز	فرام	
میں	فیکٹریوں	سے	تلف کر کے	زہریلی گیسوں	کے	
the fumes	before	releasing	them	into	the atmosphere.	
دی فومز	بی فور	ری لیزنگ	ڈیم	ان ٹو	دی ایٹموسفیر	
دھوئیں سے	پہلے	خارج کرنے سے	ان کو	میں	فضا	
English			تلفظ			اردو
Air pollution can be controlled by the use of special devices in the factories to remove poisonous gases from the fumes before releasing them into the atmosphere.			ایئر پولوشن کین بھی کنٹرولڈ ہائے دی یوز آف ڈیوائسز ان دی فیکٹریز ٹو ری موو پوزنوس گیسز فرام دی فومز بی فور ری لیزنگ ڈیم ان ٹو انڈیرکٹلی۔			کارخانوں میں خاص آلات کے استعمال سے دھوئیں سے زہریلی گیسوں کو فضا میں شامل ہونے سے پہلے تلف کر کے ہوائی آلودگی پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

Gas,	electricity	and	other sources	of	energy	should be
گیس،	الیکٹریسیٹی	اینڈ	ادرسورسز	آف	انرجی	ہڈی
گیس،	بجلی	اور	دوسرے ذرائع	کے	توانائی	کے جانے چاہئیں
used	instead	of	coal	and	other	fossil fuels.
یوزڈ	انسٹڈ	آف	کول	اینڈ	اور	فوسل فیولز
استعمال	بجائے	کے	کوئلہ	اور	دوسرے	معدنی ایندھن

English
Gas, electricity and other sources of energy should be used instead of coal and other fossil fuels.

اردو
گولڈ اور دوسرے معدنی ایندھن کے بجائے گیس، بجلی اور توانائی کے دوسرے ذرائع استعمال کئے جانے چاہئیں۔

Trees	should be	planted	in	the cities	and	towns	to	reduce	air	pollution.
ٹریز	ہڈی	پلانٹڈ	ان	دی سٹیز	اینڈ	ٹاؤنز	ٹو	ری ڈیوس	ایئر پلوشن	
پودے	چاہئیں	لگائے جانے	میں	کے لئے شہروں	اور	قصبوں	کے لیے	کم کرنے	ہوائی آلودگی	

English
Trees should be planted in the cities and towns to reduce air pollution.

اردو
ہوائی آلودگی کو کم کرنے کے لئے شہروں اور قصبوں میں پودے لگائے جانے چاہئیں۔

While Reading: پڑھنے کے دوران:

Q: How can we control air pollution? ہم ہوائی آلودگی پر کیسے قابو پاسکتے ہیں؟

Ans: If we grow more trees we can control air pollution. جواب: اگر ہم درخت لگائیں تو ہوائی آلودگی پر قابو پاسکتے ہیں۔

Water	Pollution:
واٹر	پلوشن
آبی	آلودگی

English
Water Pollution: واٹر پلوشن۔

اردو
آبی آلودگی۔

Water pollution	is	caused by	many kinds	of	domestic	and
واٹر پلوشن	از	کاژڈبائے	منی کائنڈز	آف	ڈومیسٹک	اینڈ
پانی کی آلودگی	ہوتی ہے	وجہ سے	بہت سی قسموں	کے	گھریلو	اور

industrial wastes	poured	into	streams,	rivers	and	lakes.
انڈسٹریل ویسٹس	پورڈ	ان ٹو	سٹریمز	ریورز	اینڈ	لیکس
صنعتی فضلہ جات	بھائے جاتے ہیں	میں	ندی	دریاؤں	اور	جھیلوں

English
Water pollution is caused by many kinds of domestic and industrial wastes poured into streams, rivers and lakes.

اردو
بہت سی اقسام کے گھریلو اور صنعتی فضلہ جات کے ندیوں، دریاؤں اور جھیلوں میں بہاؤ کی وجہ سے آبی آلودگی واقع ہوتی ہے۔

It	may	consist	of	dead	remains	of	animals	and	plants	which	lead	to
ات	سے	کون سیٹ	آف	ڈیڈ	ریمنز	آف	اینیملز	اینڈ	پلانٹس	ویچ	لیڈ	ٹو
ہو سکتی ہے	مشتمل	کے	مردہ	باقیات	کی	جانوروں	اور	پودوں	جو کہ	لے جاتی	ہے	

bacterial	growth,	reducing	the amount	of	oxygen	dissolved	in water.
بیکٹیریا	گرتھ	ری ڈیوسنگ	وی اماؤنٹ	آف	آکسیجن	ڈی زالوڈ	ان واٹر
بیکٹیریا	انزائش	میں کمی	مقدار	کی	آکسیجن	حل ہو کر	پانی میں

English	تلفظ	اردو
It may consist of dead remains of animals and plants which lead to bacterial growth, reducing the amount of oxygen dissolved in water.	اسٹ ہے کون سٹ آف ڈیڈ ریمینڈ آف اینیملز اینڈ پلانٹس ویچ لیڈ ٹو بیکٹیریا گرتھ ری ڈیوسنگ وی اماؤنٹ آف آکسیجن ڈی زالوڈ ان واٹر	میرہ جانوروں اور پودوں کے باقیات پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے جو کہ پانی میں حل ہو کر بیکٹیریا کی انزائش اور آکسیجن میں کمی کرتی ہیں۔

The polluted	water	damages	fish	and	other	aquatic life.
دی پولوٹڈ	واٹر	ڈیجمنٹ	فش	اینڈ	اور	آکویٹک لائف
آلودہ	پانی	کو نقصان دیتا ہے	مچھلیوں	اور	دوسری	آبی مخلوق

English	تلفظ	اردو
The polluted water damages fish and other aquatic life.	دی پولوٹڈ واٹر ڈیجمنٹش اینڈ اور آکویٹک لائف	آلودہ پانی مچھلیوں اور دوسری آبی مخلوق کو نقصان دیتا ہے۔

While Reading:

Q: What are the causes of water pollution?

Ans: Industrial and domestic wastes are the main causes of water pollution.

پڑھنے کے دوران:
آبی آلودگی کے اسباب کیا ہیں؟

جواب: صنعتی اور گھریلو فضلہ جات پانی کی آلودگی کی اہم وجہ ہیں۔

Sewage	is	another	major	sources	of	water pollution.
سوج	از	این اور	میجر	سورسز	آف	واٹر پولوشن
گنداپانی	ہے	ایک اور	بڑا	سبب	کا	آبی آلودگی

English	تلفظ	اردو
Sewage is another major source of water pollution.	سوج از این اور میجر سورسز آف واٹر پولوشن۔	گنداپانی آبی آلودگی کا ایک اور بڑا سبب ہے۔

Many cities	still	continue	to	pour	their	sewage	directly	into	rivers.
مینی	سٹیل	کانٹینیو	ٹو	پور	تھیر	سوج	ڈائرکٹلی	ان ٹو	ریورز
بہت سے	شہر	جاری رکھے ہوئے	کو	بہاتے ہیں	اپنا	گنداپانی	براہ راست	میں	دریاؤں

English	تلفظ	اردو
Many cities still continue to pour their sewage directly into rivers.	مینی سٹیل کانٹینیو ٹو پور تھیر سوج ڈائرکٹلی ان ٹو ریورز	بہت سے شہر اب بھی دریاؤں میں براہ راست گندا پانی بہاتے ہیں۔

This	causes	cholera,	typhoid	and	other	diseases
دس	کازز	کولرا	ٹائفائڈ	اینڈ	اور	ڈیزیز
یہ	وجہ بنتی	ہیضہ	ٹائیفائیڈ	اور	دوسری	بیماریوں

to	the population	which	uses	this	water.
ٹو	دی پاپولیشن	ویچ	یوزز	دس	واٹر
کو	آبادیوں میں	کرنے والی	استعمال	اس	پانی

English	تلفظ	اردو
This causes cholera, typhoid and other diseases to the population which uses this water.	دس کازز کولرائٹ ٹائفائڈ اور ڈیزیز ٹو دی پاپولیشن ویچ یوزز دس واٹر	جس آبادی اس پانی کو استعمال کرتی ہے اس میں یہ ہیضہ، ٹائیفائیڈ اور دوسری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔

Water pollution	can be	prevented	if	the dead	remains	of	animals		
واٹر پولوشن	کین لی	پری وین ہڈ	اےف	دی ڈیڈ	ریمنز	آف	اینیملز		
آبی آلودگی	جاسکتا ہے	سے بچا	اگر	مردہ	باقیات	کے	جانوروں		
and plants	are	not released	in	the fresh water	sources	and	sewage		
اینڈ پلانٹس	آر	ناٹ ریلیزڈ	ان	دی فریش واٹر	سورسز	اینڈ	سویج		
اور پودوں	ہوں	نہ بہائیں	میں	ہم تازہ پانی	ذرائع	اور	گندے پانی		
is	fully	treated	before	releasing	it	into	rivers	or	lakes.
از	فلی	ٹریٹڈ	بی فور	ریلیزنگ	اےٹ	ان ٹو	ریورز	آر	لیکس
کرلیں	اچھی طرح	پڑتال	سے پہلے	صاف	اسے	میں جانے	کودریا	یا	تدیوں

English	تلفظ	اردو
Water pollution can be prevented if the dead remains of animals and plants are not released in the fresh water sources and sewage is fully treated before releasing it into rivers or lakes.	واٹر پولوشن کین لی پری وین ہڈ اےف دی ڈیڈ ریمنز آف اینیملز پلانٹس آرنٹ ریلیزڈ ان دی فریش واٹر سورسز اینڈ سویج اےف فلی ٹریٹڈ بی فور ریلیزنگ اےٹ ان ٹو ریورز آر لیکس	آبی آلودگی سے بچا جاسکتا ہے اگر مردہ جانوروں اور پودوں کے باقیات نہ بہائیں اور گندے پانی کو دریا یا تھیڑوں میں سے پہلے اچھی طرح صاف کر لیں۔

Noise	Pollution:
نوائز	پولوشن
شورگی	آلودگی

English	تلفظ	اردو
Noise Pollution:	نوائز پولوشن۔	شورگی آلودگی۔

Noise pollution	is	becoming	an ever	increasing	problem
نوائز پولوشن	از	بی کمنگ	این ایور	انکریزنگ	پراہلم
شورگی آلودگی	ہے	بن رہا	ایک ہمیشہ سے	بڑھنے والا	مسئلہ

in	this	age	of	mechanical	inventions.
ان	دس	ایج	آف	میکنیکل	انویشنز
میں	اس	دور	کے	مشینی	ایجادات

English	تلفظ	اردو
Noise pollution is becoming an ever increasing problem in this age of mechanical inventions.	نوائز پولوشن این ایور انکریزنگ پراہلم ان دس ایج آف میکنیکل انویشنز	مشینی ایجادات کے اس دور میں شورگی آلودگی ہمیشہ بڑھنے والا مسئلہ بن رہا ہے۔

Its	major sources	are	the workshops,	trains,	automobiles,	jet aeroplanes,
اےٹس	میجر سورسز	آر	دی ورک شاپس	ٹرینز	آٹوموبائلز	جیٹ ایروپلینز
اس کے	اہم ذرائع	ہیں	کارخانے	ریل گاڑیاں	موٹر گاڑیاں	جیٹ ہوائی جہاز،

high volume radio	and	television	transmission	and	loud speakers.
ہائی والیوم ریڈیو	اینڈ	ٹیلی ویژن	ٹرانسمیشن	اینڈ	لاؤڈ سپیکرز
اوپچی آواز والے ریڈیو	اور	ٹیلی ویژن	نشریات	اور	لاؤڈ سپیکرز

English	تلفظ	اردو
Its major sources are the workshops, trains, automobiles, jet aeroplanes, high volume radio and television transmission and loudspeakers.	دی میجر سورسز آری ورک شاپس۔ ٹرینز آٹوموبائلز۔ جیٹ ایروپلینز، ہائی والیوم ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن۔	اس کے اہم ذرائع کارخانے ریل گاڑیاں موٹر گاڑیاں۔ جیٹ ہوائی جہاز، اوپچی آواز والے ریڈیو ٹیلی ویژن اور لائوڈ سپیکرز ہیں۔

Noise	produces	several	harmful	effects	on	our physical	and	mental
نوائز	پروڈیوسز	سیورل	ہارم فل	ایفیکٹس	آن	اودر فزیکل	اینڈ	مینٹل
شور	پیدا کرتا	بہت سے	نقصان دہ	اثرات	ہم	ہماری جسمانی	اور	ذہنی
health.	It	disturbs	sleep	and	leads	to many	nervous	problems.
ہیلتھ	اٹ	ڈسٹرب	سلیپ	اینڈ	لیڈز	ٹو مینی	نروس	پرابلمز
صحت	یہ	میں خلل واقع کرتا ہے	نیند	اور	پیدا کرتا ہے	بہت سی	اعصابی	مسائل

English
Noise produces several harmful effects on our physical and mental health. It disturbs sleep and leads to many nervous problems.

اردو
نور ہاری ذہنی اور جسمانی صحت پر بہت نقصان دہ اثرات پیدا کرتا ہے۔ یہ نیند میں خلل پیدا کرتا ہے اور بہت سے اعصابی مسائل کی طرف لے جاتا ہے۔

Sudden	burst of sound	can	cause	acute	damage	to	the ear drum
سڈن	برسٹ آف ساؤنڈ	کین	کاز	اکوٹ	ڈیج	ٹو	دی ائرز ڈرم
اجایک	اوپنی آواز ہمارے	ہو سکتی ہے	پہنچانے کا باعث	انتہائی	نقصان	کو	کالوں کے پردے
and	may	cause	temporary	or	permanent	deafness.	
اینڈ	ے	کاز	ٹمپریری	آر	پرمیننٹ	ڈیفنس	
اور	ہو سکتا	وجہ	عارضی	یا	مستقل	بہرا پن	

English
Sudden burst of sound can cause acute damage to the ear drum and may cause temporary or permanent deafness.

اردو
اجایک اوپنی آواز ہمارے کالوں کے پردے کو انتہائی نقصان پہنچانے کا باعث ہو سکتی ہے اور عارضی یا مستقل بہرا پن بھی ہو سکتا ہے۔

While Reading:
Q: What are the effects of noise on our health?
Ans: It is causing serious damages to our physical and mental health.

پڑھنے کے دوران:
شور کی آلودگی کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہیں؟
جواب: یہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے لئے شدید نقصان کا باعث ہے۔

In	the modern age	of	industry	and	electronics,	it	is
ان	دی ماڈرن ایج	آف	انڈسٹری	اینڈ	الیکٹرونکس	اٹ	از
میں	جدید دور	کے	صنعت	اور	برقی	یہ	ہے
almost	impossible	to get	rid	of	noise pollution.		
آل سوٹ	ام پاسی بل	ٹو گیٹ	ریڈ	آف	نوائز پولوشن		
تقریباً	ناممکن	حاصل کرنا	چھٹکارا	سے	شور کی آلودگی		

English
In the modern age of industry and electronics, it is almost impossible to get rid of noise pollution.

اردو
صنعت اور برقی آلات کے جدید دور میں شور کی آلودگی سے چھٹکارا تقریباً ناممکن ہے۔

However,	there	are	ways	and	means	to reduce
ہاؤ ایور	دیئر	آر	ویز	اینڈ	میز	ٹو ریڈیوس
تاہم	ہیں	طریقے	اور	ذرائع	کے	نور یلے یوس
the intensity	of	noise	to	a moderate	level.	
دی انٹینسٹی	آف	نوائز	ٹو	آموڈریٹ	لیول	
شدت	کی	شور	کو	قابل برداشت	سطح	

English
However, there are ways and means to reduce the intensity of noise to a moderate level.

اردو
تاہم شور کی شدت کو قابل برداشت حد تک لانے کے لئے طریقے موجود ہیں۔

Vocabulary

ذخیرہ الفاظ

A Look up the meanings of the following words in dictionary and use them in sentences.

مندرجہ ذیل کے معانی لغت میں دیکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔

outcomes, environment, constituents, sources, pollution

outcomes نتیجہ	Pollution is an outcome of modern age.
environment ماحول	We are living in a polluted environment.
constituents عناصر	Sewage and chemicals are constituents of water pollution.
sources ذرائع	Buses, cars and taxis are sources of transportation.
pollution آلودگی	Pollution is a threat for life.

B Find out the synonyms and antonyms of the following words in thesaurus.

مندرجہ ذیل کے مترادف اور متضاد لغت میں تلاش کریں۔

Word	Synonyms مترادف	Antonyms متضاد
fast تیز	swift / quick	slow آہستہ
collect اکٹھا کرنا	assemble / accumulate	separate / divide تقسیم کرنا
continue جاری	abide / carry on	stop روکنا
harmful نقصان دہ	damaging / hurtful	useful مفید فائدہ مند

Reading for Comprehension پڑھ کر سمجھنا

A Answer the following questions.

مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔

1. Which kind of pollution is widely spread and most dangerous?

کون سی آلودگی تیزی سے پھیلتی ہے اور اسی لیے بہت خطرناک بھی ہے؟

Ans. Air pollution is widely spreading and most dangerous.

فضائی آلودگی انتہائی خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی آلودگی ہے۔

2. What are the bad effects of air pollution?

ہوائی آلودگی کے برے اثرات کیا ہیں؟

Ans. Air pollution is destroying our health badly. It is harmful for human body and causes many diseases related to respiratory system.

فضائی آلودگی ہماری صحت کو تباہ کرتی ہے۔ یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور بہت سی نظام تنفس سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔

3. How can air pollution be controlled?

ہوائی آلودگی پر کیسے قابو پایا جاسکتا ہے؟

Ans. It can be controlled by the use of special devices in the factories to remove harmful gases from the fumes.

مختلف ترائیک کے ذریعے فیکٹریوں میں سے دھوئیں میں شامل نقصان دہ گیسوں کو ہٹا کر اس پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

4. What is the cause of water pollution?

آبی آلودگی کی کیا وجہ ہے؟

Ans. Domestic and industrial wastes which are poured into streams, rivers and lakes are the major causes of water pollution.

گھریلو اور صنعتی فضلہ جو ندیوں، دریاؤں اور جھیلوں میں بہایا جاتا ہے، آبی آلودگی کے سب سے اہم اسباب ہیں۔

5. What is noise? How is it harmful for us?

شور کیا ہے اور یہ ہمارے لئے نقصان دہ کیوں ہے؟

Ans. Noise is a serious problem because of mechanical inventions. Burst of different sounds is noise. It can cause damage to the ear drum and may cause deafness.

شور مشینی ایجادات کا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ مختلف زوردار آوازیں شور کہلاتی ہیں۔ یہ شور کان کے پردے کو نقصان پہنچانے کا سبب ہو سکتا ہے اور بہرے پن کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔

6. How does cutting of trees adds to environmental pollution?

درختوں کا کاٹنا کیسے ماحولیاتی آلودگی کا سبب ہے؟

Ans. Trees produce oxygen and inhale hydrogen. Oxygen is necessary for human life. Thus by cutting them, we are reducing the natural purifying system.

درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور ہائیڈروجن جذب کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آکسیجن کاٹ کر ہم قدرتی صفائی کے نظام کو کم کر رہے ہیں۔

7. Our elders enjoyed a healthy life as compared to us. How?

ہمارے بڑے صحت مند زندگی سے لطف اٹھاتے تھے اپنی زندگی سے موازنہ کریں کیسے؟

Ans. They lived in less polluted environment. They ate fresh food. They breathed in fresh air etc.

وہ کم آلودہ ماحول میں رہتے تھے۔ تازہ خوراک کھاتے تھے۔ اور تازہ ہوا میں سانس لیتے تھے۔

B Tick (✓) the correct option.

درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

- The main causes of pollution are:
 - huge Industrial Installation
 - introduction of faster modes of transport
 - spreading of large crowded cities
 - all of above
 - Smoke containing poisonous gases is the cause of:
 - air pollution
 - water pollution
 - noise pollution
 - soil pollution
 - Sewage is a major source of:
 - noise pollution
 - soil pollution
 - water pollution
 - air pollution
 - Noise is usually defined as:
 - any sound
 - any voice
 - any wanted sound
 - any unwanted sound
 - The major source of noise pollution is:
 - smoke
 - sewage
 - workshops
 - gases
- C** Pollutants are the substances that pollute the environment. Match the pollutants in column 'A' with the kind of pollution in column 'B'.

آلودہ عناصر وہ مادے ہیں جو ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں کالم A آلودگی کو کالم B آلودگی سے ملائیں۔

A	B
loud music	air pollution
sewage poured in rivers	noise pollution
smoke	water pollution

D Give the following information:

درج ذیل معلومات دیں

- Give four examples of air pollution.

ہوائی آلودگی کی چار مثالیں دیں۔

 - smoke
 - dust
 - Gases
 - Factories
- Give any four water pollutants.

آبی آلودگی کی چار مثالیں دیں۔

 - sewage
 - oil
 - chemical
 - fertilizers
- List any two harmful effects of air pollution on human health.

انسانی صحت پر ہوائی آلودگی کے دو اثرات لکھیں

 - skin diseases
 - breathe problem
- List any two harmful effects of water pollution on fish and other aquatic life.

مچھلیوں اور دوسری آبی حیات پر آبی آلودگی کے دو مضر اثرات لکھیں۔

 - It causes their death.
 - It causes their less growth.

Grammar قواعد

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense is used when we see things happening in the past but having a result in the present.

فعل حال مکمل تب استعمال ہوتے ہیں جب کوئی کام ماضی میں ہوا ہو لیکن اسی کا نتیجہ حال میں ہو۔

In the Present Perfect Tense, we use the present tense of

فعل حال مکمل میں ہم have استعمال کرتے ہیں۔

have + the past participle of the verb
Examples: They have eaten all the eggs.

مثال: دو سب انڈے کھا چکے ہیں۔

The train has arrived.

ریل گاڑی آچکی ہے۔

They have learnt their lesson.

انہوں نے سبق یاد کر لیا ہے۔

A Separate the sentences in Present Perfect Tense from the following.

درج ذیل جملوں میں سے فعل حال مکمل تحریر کرنا لگ کریں۔

- Students had already reached the station.
- He has not acted upon my advice.
- We have finished our homework.
- He had reached home by evening.
- The patient has taken medicine.
- The room had been cleaned before the guests came.
- The rainy season has set in.
- The sun had set when we reached home.

Ans.

Sentences in Present Perfect Tense

فعل حال مکمل کے جملے

- He has not acted upon my advice.

اس نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا ہے۔
- We have finished our homework.

ہم نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا ہے۔
- The patient has taken medicine.

مریض دوا کھا چکا ہے مریض نے دوا کھالی ہے۔
- The rainy season has set in.

بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے۔

Active / Passive Voice
فعل معروف و فعل مجہول

Active Voice: When the 'subject' of a sentence is the doer or actor, the verb is in Active Voice. It is so because the subject is Active, such as, I do this work.

جب جملے میں فاعل کام کر رہا ہو یا کام کرنے والا ہو تو فعل Active voice ہوتا ہے۔ یہ Active voice ہے اس لئے کیوں کہ فاعل کام کر رہا ہے جیسے کہ I do this work میں یہ کام کرتا ہوں۔

Passive Voice: When the 'subject' of a sentence is acted upon, the Verb is in Passive Voice. It is so because the subject is Passive, such as, The work is done by me.

جب جملے میں فاعل پر کام ہو رہا ہو تو فعل Passive voice ہوتا ہے یہ اس لیے کیوں کہ فاعل Passive voice ہے جیسے کہ This work is done by me. کام مجھ سے لیا جاتا ہے۔

Active Voice:

	Subject	verb	object
Active			→
	Zoya	opened	the window.

Passive Voice:

	Subject	verb	object
Passive			→
	The window	was opened	by Zoya.

Rules for Changing Active Voice into Passive Voice:
فعل معروف کو فعل مجہول میں بدلنے کا طریقہ

Rule 1: The object of the verb in the Active Voice becomes the subject of the verb in the Passive Voice.

اصول نمبر ۱: فعل معروف کے جملے میں مفعول، اسم مجہول کے جملے میں فاعل کی جگہ لے لیتا ہے۔

Rule 2: The subject of the verb in the Active Voice becomes the object in the Passive Voice, generally preceded by the preposition 'by'.

اصول نمبر ۲: اسم معروف کے جملے میں فعل کا فاعل اسم مجہول میں مفعول کی جگہ آ جاتا ہے اور اس سے پہلے عموماً "by" حرف جار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

Rule 3: The main verb is changed into the Past Participle form and it is preceded by the correct form of the verb 'to be' in Passive Voice.

اصول نمبر ۳: بنیادی فعل ماضی کی شکل میں بدل جاتا ہے اور اسے پہلے فعل کی شکل "to be" فعل مجہول بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

Rule 4: There are some verbs with two objects. In such cases either of the objects (preferably the Personal object) can be changed into the subject and the other is retained as an object. This object is called as Retained Object.

اصول نمبر ۴: کچھ فعلوں کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں دونوں میں سے ایک مفعول (شخصی مفعول) فاعل میں بد جاتا ہے اور دوسرا مفعول کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس مفعول کو Retained object کہتے ہیں۔

A Change the following sentences into Passive Voice.

مندرجہ ذیل جملوں کو Passive Voice میں تبدیل کریں۔

1.	Water or land pollution adversely affects the environment.
Ans.	The environment is adversely affected by water or land pollution.
2.	Poisonous gases affect plants and human life.
Ans.	Plants and human life are affected by poisonous gases.
3.	Noise produces several harmful effects.
Ans.	Several harmful effects are produced by noise.

4.	Noise disturbs sleep.
Ans.	Sleep is disturbed by noise.
5.	Direct sewage into rivers causes Cholera and Typhoid.
Ans.	Cholera and Typhoid are caused by direct sewage into rivers.

لکھنے کی مہارتیں Writing Skills

A Writing an Informal letters is to convey the personal message. Here is a sample to help you understand the correct format of letter writing.

ذاتی پیغام دینا رسمی خط کہلاتا ہے یہاں ایک خط کا نمونہ ہے تاکہ آپ لکھنے کا صحیح طریقہ کار سمجھ سکیں۔

2-A Satellite Town,
ABC
June 18, 20.....
My dear friend,

Assalam-u-Alukum, I haven't heard from you since long. I am sure you must be doing fine. I was quite busy in preparation of the first term examination.

As summer vacations are about to start, I want to invite you to come over and spend few days with my family. We will enjoy visiting the surrounding places like Murree and Ayubia. It will be a good change after the tiring school routine. Please request your parents to allow you to come and let me know the arrival date.

It will be wonderful if you bring your camera along so that we can take pictures.

Convey my best regards to your parents and love to your younger brother.

Write me soon about your programme.
With best wishes.

Your friend,
X.Y.Z

B From the given information chart, write a paragraph on the use of plastic bags.

دیئے گئے معلوماتی چارٹ کی مدد سے پلاسٹک کے تیلوں کے استعمال پر ایک پیرا گراف لکھیں:

Problem	Use of Plastic Bags
Causes	use of plastic bags is a serious problem of our time _____ plastic materials are non-biodegradable _____ plastic materials are not easily dissolved _____

Effects	lead to the blockade of sewage system _____ lead to poisoning of food _____ risk of animals being choked to death _____ risk of children being choked to death while playing with plastic bags _____
Solution	Say "No" to plastic bags.

Ans. Causes:

Use of plastic bags is a serious problem of our modern age. Plastic materials are non-biodegradable. They are not easily dissolved. We mostly prefer to use plastic bags, as they are easy to carry but they are harmful.

Effects:

After using them people throw them into the streets and on the roads. It leads to the blockade of sewage system. The wet food in it also leads to poisoning of food. It can be dangerous and causes death if animals eat them and if children play with them unconsciously. It also causes pollution. Plastic bags are very difficult to destroy.

Solution:

So, it is better to say "No" to plastic bags. Instead of them we should use paper bags.

زبانی گفتگو کی مہارتیں Oral Communication Skills

Naveed: Hi, Saeed. This is Naveed. Would you like to sit with me for sometime today?	لوید سعید میں لوید ہوں کیا آپ کچھ دیر میرے پاس آج بیٹھ سکتے ہیں؟
Saeed: I'm afraid I can't. I have to return my library books.	سعید: مجھے ڈر ہے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے لائبریری کی کتابیں واپس کرنے جانا ہے۔
Naveed: Would you like to see me after returning the books?	لوید: کیا آپ مجھے کتابیں واپس کرنے کے بعد ملیں گے۔
Saeed: I'd really like to, but I can't. I also have to pick up my guests from the railway station.	سعید: میں ایسا کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ریلوے اسٹیشن سے مہمانوں کو لانا ہے۔

Naveed: You're really busy today. What would you do after you pick them up?	لوید: تم واقعی آج مصروف ہو ان کو لانے کے بعد کیا کرو گے؟
Saeed: Nothing. But then I'll be really exhausted.	سعید: کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی میں تھک جاؤں گا۔
Naveed: Fine. I'll call you in the morning.	لوید: ٹھیک میں آپ کو صبح ٹھکانوں گا۔
Saeed: OK. Fine.	سعید: ٹھیک ہے۔

Group Activity اجتماعی سرگرمی

Practise this conversation in pairs.
اس گفتگو کی جوڑوں کی صورت میں مشق کریں۔

Suggested Reading تجویز کردہ مطالعہ

The Wooden Horse by Eric Williams.

Glossary اصطلاحات

acute	اجتہائی	very serious or severe
adversely	نہی طرح	negatively, unpleasantly, not likely to improve
aquatic	آبی	growing or living in or near water
atmosphere	فضا	the air in a particular place
automobile	ذرائع آمدرفت	car, truck, lorry
civilization	تہذیب	a society, its culture and way of life
congested	گنجان	crowded, full of vehicles or traffic
constituents	حصہ	elements

environment	ماحول	conditions that affect the behaviour of something
fossil	ہاتیات	remains of plant or animal hardened in rock
fumes	دھواں	smoke, gases or vapour
immense	زیادہ	great, extreme
installation	تعمیر	a machinery fixed at a position to be used
laden	لدا / لدی ہوئی	heavily loaded with something
magnitude	حجم	the great size or importance
mode	انماز	particular way of doing something
moderate	اعتدال	reasonable, staying within limits
odour	ہڈو	smell
offensive	ناخوشگوار	extremely unpleasant
pollution	آلودگی	process of making air, water, soil dirty
prompt	فورا	done without delay, immediate
revolution	انقلاب	fundamental change
sewage	گنسا پانی	waste substance of human bodies and factories carried away by pipes

Test Preparation امتحانی تیاری

☆ Read the given paragraph and answer the question no. 1 - 5.
Pollution is the addition of any such constituents to air, water of land which adversely alters the natural quality of

environment. Pollution is a serious problem of modern age. With rapidly increasing industries especially in developing countries, the problems of great magnitude.

1. Pollution is a _____ problem.
 - (a) Little
 - (b) Serious
 - (c) big
 - (d) bit
2. Pollution is effecting the _____.
 - (a) house
 - (b) animal
 - (c) Environment
 - (d) space
3. The pollution is of air, water and:
 - (a) land
 - (b) sea
 - (c) mountain
 - (d) food.
4. Pollution is the problem of _____ age.
 - (a) ancient
 - (b) modern
 - (c) old
 - (d) science.
5. The Meaning of "Alter" is:
 - (a) Change
 - (b) promote
 - (c) increase
 - (d) decrease
6. The correct active voice of the sentence "I have been taught by him." is:
 - (a) He had taught me.
 - (b) He can teach me.
 - (c) He will teach me.
 - (d) He has taught me.
7. The correct passive voice of the sentence "They have taken tea." is:
 - (a) Tea is being taken by them.
 - (b) Tea was being taken by them.
 - (c) Tea has been taken by them.
 - (d) Tea will be taken by them.
3. The correct active voice of the sentence "Medicine has been taken by them." is:
 - (a) They are taking medicine.
 - (b) They have been taking medicine.
 - (c) They have taken medicine.
 - (d) They were taking medicine.
4. The correct active voice of the sentence "She is being punished by the teacher". is:
 - (a) The teacher was punishing her.

- (b) The teacher will punish her.
 - (c) The teacher has been punishing her.
 - (d) The teacher is punishing her.
5. The correct passive voice of the sentence: "We follow the teachings of our Rasool (ﷺ)" is:
 - (a) The teachings of our Rasool (ﷺ) was followed by us.
 - (b) The teachings of our Rasool (ﷺ) is followed by us.
 - (c) The teachings of our Rasool (ﷺ) are followed by us.
 - (d) The teachings of our Rasool (ﷺ) were followed by us.
 6. The correct active voice of the sentence: "Food was cooked by mother in the evening" is:
 - (a) Mother is cooking food in the evening.
 - (b) Mother cooks food in the evening.
 - (c) Mother cooked food in the evening
 - (d) Mother was cooking food in the evening.
 7. The correct active voice of the sentence "I was given a book by him." is:
 - (a) He has given me a book.
 - (b) He would give me a book.
 - (c) He gave me a book.
 - (d) He will give me a book.
 8. The correct passive voice of the sentence: "Mr. Qazi is addressing his class." is:
 - (a) His class is addressed by Mr. Qazi.
 - (b) His class was addressed by Mr. Qazi.
 - (c) His class is being addressed by Mr. Qazi.
 - (d) His class has been addressed by Mr. Qazi.
 9. The correct active voice of the sentence: "A kite is being flown by her." is:
 - (a) She is flying a kite
 - (b) She was flying a kite
 - (c) She flies a kite
 - (d) She has flown a kite

10. The correct active voice of the sentence "The small trees will be cut down by me." is:

- (a) I would cut down the small trees.
- (b) I shall cut down the small trees.
- (c) I was cutting down the small trees.
- (d) I have cut down the small trees.

12. The correct passive voice of the sentence: "We have nearly finished our Maths course." is:

- (a) Our Maths course is being nearly finished by us.
- (b) Our Maths course was being nearly finished by us.
- (c) Our Maths course has been nearly finished by us.
- (d) Our Maths course have been nearly finished by us

13. The correct active voice of the sentence:

"Hockey will be played by them." is:

- (a) They are playing hockey.
- (b) They were play hockey.
- (c) They will be playing hockey.
- (d) They will play hockey.

14. The correct Passive voice of the sentence:

He is drinking milk.

- (a) Milk is drunk by him.
- (b) Milk are being drank by him.
- (c) Milk is being drunk by him.
- (d) Milk will be drunk by him.

15. The correct Passive voice of the sentence

"She ate apples: is:

- (a) Apples were eaten by her.
- (b) Apples are eaten by her.
- (c) Apples have eaten by her.
- (d) Apples will be eaten by her.

16. The correct active voice of the sentence

"Nurses are employed by the state." is:

- (a) The state employed nurses.

(b) The state employs nurses.

(c) The state will employ nurses.

(d) The state had employed nurses.

17. The correct passive voice sentence is:

(a) The first Olympic Gold Medal won by women's hockey team of Zimbabwe.

(b) The first Olympic Gold Medal was won by women's hockey team of Zimbabwe.

(c) The first Olympic Gold Medal was win by women's hockey team of Zimbabwe .

(d) The first Olympic Gold Medal was wining by women's hockey team of Zimbabwe.

18. The correct passive voice sentence is:

(a) My exams are over.

(b) Only a few chapters are left.

(c) He has received photo graphs.

(d) I'm glad to know you.

19. Which is the correct passive voice of the sentence? "He opened many schools for children".

(a) Many schools opened for children by him.

(b) Many schools were opened for children by him.

(c) Many schools have been opened for children by him.

(d) Many schools are opened for children by him.

20. The correct passive voice sentence is:

(a) Photographs have been received from the satellite.

(b) My exams are not far.

(c) I'm glad to know you.

(d) We have read only a few chapters.

21. The correct passive voice sentence is:

(a) The state employs nurses.

(b) The state is employed by nurses.

(c) Nurses are employed by the state.

(d) Nurses employed state.

Lesson 7: A DENGUE PATIENT VISITS A DOCTOR

ایک ڈینگی کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے / ڈاکٹر کے ہاں دورہ کرتا ہے

پڑھنے سے پہلے کی مشق

Pre-reading:

Q: What do you know about Dengue fever?

Ans: It is an infectious disease.

Q: How can spread of Dengue fever be prevented?

Ans: If we follow some precautions, we can save ourselves from dengue fever.

جواب: اگر ہم کچھ احتیاطی تدابیر کریں تو ڈینگی بخار سے بچ سکتے ہیں۔

آپ ڈینگی بخار کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

جواب: یہ ایک وبائی مرض ہے۔

ڈینگی بخار کے پھیلاؤ سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟

Urdu Translation

Ali:	Good morning,	Dr. Sahib.
علی:	گڈ مارننگ	ڈاکٹر صاحب
علی:	صبح بخیر	ڈاکٹر صاحب
English	تلفظ	اردو
All: Good morning, Dr. Sahib.	علی: گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب	علی: ڈاکٹر صاحب صبح بخیر۔

Doctor:	Welcome!	Yes,	what	are	you	suffering from?
ڈاکٹر:	ویل کم!	ہیں	وٹ	آر	یو	سٹرینگ فرام؟
ڈاکٹر:	خوش آمدید	جی	کیا	ہے	آپ کو	متاثر ہوا؟

English	تلفظ	اردو
Doctor: Welcome! Yes, what are you suffering from?	ڈاکٹر: ویل کم ایس وٹ آر یو سٹرینگ فرام؟	ڈاکٹر: خوش آمدید جی آپ کس بیماری میں مبتلا ہیں؟

Ali:	Dr. Sahib,	I	am	suffering	from	high	fever	for	the	last	few	days.
علی:	ڈاکٹر صاحب	آئی	ایم	سٹرینگ	فرام	ہائی	فیور	فار	دی	لاسٹ	فیو	ڈیز
علی:	ڈاکٹر صاحب	میں	ہوں	متاثر	سے	تیز	بخار	کے	لیے	گذشتہ	کچھ	دنوں

English	تلفظ	اردو
All: Dr. Sahib, I am suffering from high fever for the last few days.	علی: ڈاکٹر صاحب آئی ایم سٹرینگ فرام ہائی لیور فار دی لاسٹ فیو ڈیز۔	علی: ڈاکٹر صاحب میں تیز بخار میں مبتلا ہوں۔

I	also	feel	pain	behind	my	eyes	and	have	a	severe	headache.
آئی	آل سو	فیل	پین	بی ہائنڈ	مائی	آئز	اینڈ	ہیو	ای	سیور	ہیڈ ایک
مجھے	بھی	درد محسوس	کرتا	پچھے	اپنی	آنکھوں	اور	شدید			سر درد

English	تلفظ	اردو
I also feel pain behind my eyes and have a severe headache.	آئی آل سو فیل پین بی ہائنڈ مائی آئز اینڈ ہیو اسیور ہیڈ ایک۔	میں اپنی آنکھوں کے پیچھے اور سر میں شدید درد محسوس کرتا ہوں۔

Doctor:	Did	you	take	any	medicine?
ڈاکٹر:	ڈڈ	یو	ٹیک	اینی	میڈیسن؟
ڈاکٹر:	کیا	آپ نے	لی ہے	کوئی	دوائی

English: Doctor: Did you take any medicine?
 Urdu: ڈاکٹر: کیا آپ نے کوئی دوا لی؟
 تلفظ: ڈاکٹر: ڈیڈ یو ٹیک ایئی میڈیسن؟

Ali:	Yes,	but	there	is	no	relief.
علی:	ہاں	لیکن	وہاں	ہے	کوئی	ریلیف
علی:	ہاں	لیکن	وہاں	ہے	کوئی	آرام

English: All: Yes, but there is no relief.
 Urdu: علی: جی ہاں لیکن آرام نہیں آیا۔
 تلفظ: علی: یس بٹ ڈیر ایئر لیف

Doctor:	I'll	check	you.
ڈاکٹر:	آئی ٹیل	چیک	یو۔
ڈاکٹر:	میں کا	معائنہ کروں	آپ کا

English: Doctor: I'll check you.
 Urdu: میں آپ کا معائنہ کروں گا۔
 تلفظ: ڈاکٹر: آئی ٹیل چیک یو۔

English: Please sit down.
 Urdu: مہربانی کر کے بیٹھ جائیں۔
 تلفظ: پلیز سیٹ ڈاؤن

English: Please sit down.
 Urdu: مہربانی کر کے بیٹھ جائیں۔
 تلفظ: پلیز سیٹ ڈاؤن

(The doctor checks him up thoroughly and suspects him a Dengue patient).	ڈی ڈاکٹر	چیک	ہم آپ	تھاروٹی	اینڈ	سبسپیس	ہم	ایک ڈینگی	پینٹنٹ
ڈاکٹر	معائنہ کرتا ہے	اس کا	مکمل	اور	گمان کرتا ہے	اے	ایک ڈینگی	مریض ہے	

English: (The doctor checks him up thoroughly and suspects him a Dengue patient).
 Urdu: ڈاکٹر اس کا مکمل معائنہ کرتا ہے اور اسے گمان ہے کہ وہ ڈینگی کا مریض ہے۔
 تلفظ: ڈی ڈاکٹر چیک ہم آپ تھاروٹی اینڈ سبسپیس ہم اے ایک ڈینگی پینٹنٹ۔

As you know	Dengue	fever	has	spread	in	the area.
ایز یو	ڈینگی	فیور	ہیز	سپریڈ	ان	دی ایریا
جیسا کہ آپ	ڈینگی	بخار	چکا ہے	پھیل	میں	علاقے

English: As you know Dengue fever has spread in the area.
 Urdu: جیسا کہ آپ جانتے ہیں علاقے میں ڈینگی بخار پھیل چکا ہے۔
 تلفظ: ایز یو ناؤ ڈینگی فیور ہیز سپریڈ ان دی ایریا۔

Let me	confirm	my	findings	after	some	test reports.
لیٹ می	کنفرم	مائی	فائنڈنگز	آفٹر	سم	ٹیسٹ رپورٹس
مجھ کو	تصدیق کرنے	میں	معلومات کی	کے بعد	کچھ	ٹیسٹ رپورٹس

English: Let me confirm my findings after some test reports.
 Urdu: مجھ ٹیسٹ رپورٹس کے بعد میں اپنی معلومات کی تصدیق کروں گا۔
 تلفظ: لیٹ می کنفرم مائی فائنڈنگز آفٹر سم ٹیسٹ رپورٹس۔

Ali:	Dr. Sahib,	what	is	Dengue fever?
علی:	ڈاکٹر صاحب،	وٹ	ہے	ڈینگی لیور؟
علی:	ڈاکٹر صاحب	کیا	ہے	ڈینگی بخار

English: Ali: Dr. Sahib, what is Dengue fever?
 Urdu: علی: ڈاکٹر صاحب ڈینگی بخار کیا ہے؟
 تلفظ: علی: ڈاکٹر صاحب، وٹ ایز ڈینگی لیور؟

Doctor:	It	is	an infectious	disease	spread by	mosquitoes.
ڈاکٹر:	اٹ	از	این ان ایک	ڈیزیز	پھیلنے والے	موسکیٹوز
ڈاکٹر:	یہ	ہے	ایک وبائی	مرض	سے پھیلتا ہے	اور مچھروں

English
Doctor: It is an infectious disease spread by mosquitoes.

اردو
 ڈاکٹر: یہ ایک وبائی مرض ہے اور مچھروں سے پھیلتا ہے۔

The symptoms	are	high fever,	headache,	pain	behind
دی کھتر	آر	ہائی فیور،	ہیڈ ایک،	پین	بی ہائنڈ
علامات	ہیں	تیز بخار	سر درد	درد	پچھے

the eyes,	aching	of	muscles	and	joints.
دی آنز	ایکنگ	آف	مسلز	اینڈ	جوائنٹس
آنکھوں	درد	کا	پٹھوں	اور	جڑوں

English
The symptoms are high fever, headache, pain behind the eyes, aching of muscles and joints.

اردو
 اس کی علامات تیز بخار، سر درد، آنکھوں کے پیچھے درد، دی کھتر، آر ہائی فیور، ہیڈ ایک، پین بی ہائنڈ، دی آنز ایککنگ آف مسلز اینڈ جوائنٹس۔

It	is	also	known as	break	bone	fever.
اٹ	از	آل سو	ناؤن ایز	بریک	بون	فیور
اسے	ہے	بھی	کے نام سے جانا جاتا	توڑ	ہڈی	بخار

English
It is also known as break bone fever.

اردو
 اٹ ایڈ آف سو ناؤن ایز بریک بون فیور۔ اسے ہڈی توڑ بخار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

It	usually	spreads	during	and	after	the rainy	seasons.
اٹ	یو بی	سپریڈز	ڈیورینگ	اینڈ	آفٹر	دی ریٹی	سیزنز
یہ	عام طور پر	پھیلتا ہے	کے دوران	یا	بعد میں	برسات	موسم

English
It usually spreads during and after the rainy seasons.

اردو
 یہ عام طور پر موسم برسات کے دوران یا بعد میں پھیلتا ہے۔ اٹ یو بی سپریڈز ڈیورینگ اینڈ آفٹر دی ریٹی سیزنز۔

Ali:	Dr. Sahib,	this	is	exactly	how	I	feel.
علی:	ڈاکٹر صاحب،	وس	از	ایگزیکٹلی	ہاؤ	آئی	فیل
علی:	ڈاکٹر صاحب	یہ	ہے	بالکل	ایسا ہی	میں	محسوس کرتا

English
Ali: Dr. Sahib, this is exactly how I feel.

اردو
 ڈاکٹر صاحب میں بالکل ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ علی: ڈاکٹر صاحب، وس از ایگزیکٹلی ہاؤ آئی فیل۔

How	long	will	it	take	to recover?
ہاؤ	لانگ	ول	اٹ	ٹیک	ٹوری کور
کتنا	وقت	گا	اسے	لگے	ٹھیک ہونے میں

English
How long will it take to recover?

اردو
 اسے ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ ہوؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹوری کور۔

Doctor:	Ali,	right now,	there	is	an early	stage	of	the disease.
ڈاکٹر:	علی،	رائٹ ناؤ	تھیر	از	این ایرلی	سٹیج	آف	دی ڈیزیز
ڈاکٹر:	علی	ابھی	وہاں	ہے	شروع	مرحلہ	کا	بیماری

You	will	recover	in	about	two	weeks.
آپ	ولے	ریکوری	ان	اباؤت	ٹو	ویکس
آپ	گے	ٹھیک ہو جاؤ	میں	تقریباً	دو	ہفتے

English: Doctor: All, right now, there is an early stage of the disease. You will recover in about two weeks.

اردو: ڈاکٹر: علی، براہ راست ناؤ دیکھنا اسی کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ آپ تقریباً دو ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گے۔

ڈاکٹر: علی، براہ راست ناؤ دیکھنا اسی کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ آپ تقریباً دو ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گے۔

Take	complete	rest	and	the medicine	regularly	that
لیک	کمپلیٹ	ریسٹ	اینڈ	دی میڈیسن	ریگولرلی	دیت
کریں	مطل	آرام	اور	دوائی	باقاعدگی سے	جو

I am	prescribing	besides	to take	complete	bed rest.
آئی ایم	پریسکرائبنگ	بی سائڈز	ٹو ٹیک	کمپلیٹ	بیڈ ریسٹ
میں	تجویز	اس کے علاوہ	لیں	مطل	آرام کریں

English: Take complete rest and the medicine regularly that I am prescribing besides to take complete bed rest.

اردو: مکمل آرام کریں اور دوائی جو میں تجویز کر رہا ہوں باقاعدگی سے لیں اس کے علاوہ مکمل آرام کریں۔

لیک، کمپلیٹ ریسٹ اینڈ دی میڈیسن ریگولرلی دیت آئی ایم پریسکرائبنگ بی سائڈز ٹو ٹیک کمپلیٹ بیڈ ریسٹ

Take lots	of	fluids	like	juices,	etc.
لیک لاس	آف	فلویڈز	لائک	جوئسز	ایسٹرا
بہت سی	استعمال کریں	پینے والی اشیا	جیسے	جوئسز،	دغیرہ

English: Take lots of fluids like juices, etc.

اردو: بہت سی پینے والی اشیا جیسے مشروبات، وغیرہ استعمال کریں۔

لیک لاس آف فلویڈز لائک جوئسز ایسٹرا

Your	blood	pressure	also	should be	regularly	monitored
یور	بلڈ	پریشر	آل سو	ہڈ بی	ریگولرلی	مونٹیرڈ
آپ	کابلڈ	پریشر	سے درج	ہونا چاہیے	روزانہ	جانچ

English: Your blood pressure also should be regularly monitored.

اردو: آپ کے بلڈ پریشر کی باقاعدگی سے جانچ ہونی چاہیے۔

یور بلڈ پریشر آل سو ہڈ بی ریگولرلی مونٹیرڈ۔

Ali:	Dr. Sahib,	are	there	any	preventive	measures	also	to	avoid	Dengue	fever?
علی:	ڈاکٹر صاحب،	آر	دیپر	اینی	پری وینٹیو	میژرز	آل سو	ٹو	اوائیڈ	ڈینگی	فیور؟
علی:	ڈاکٹر صاحب	کیا	وہاں	کوئی	کے حفاظتی	اقدامات	بھی ہیں؟	کے لیے	سے بچاؤ	ڈینگی	فیور؟

English: Ali: Dr. Sahib, are there any preventive measures also to avoid Dengue fever?

اردو: علی: ڈاکٹر صاحب، کیا وہاں کوئی حفاظتی اقدامات بھی ہیں؟

علی: ڈاکٹر صاحب، آر دیپر اینی پری وینٹیو میژرز آل سو ٹو اوائیڈ ڈینگی فیور؟

علی: ڈاکٹر صاحب، کیا وہاں کوئی حفاظتی اقدامات بھی ہیں؟

Doctor:	Yes,	certain	preventions	can	save	us	from	this	infectious	disease.
ڈاکٹر:	ہاں،	سرٹین	پری وین ہنز	کین	سیو	اس	فرام	اس	ان ایسکس	ڈیزیز
ڈاکٹر:	یقیناً	خاص	احتیاطی تدابیر	سکتی ہیں	بچا	ہمیں	سے	اس	دہائی	مرض

English / **اردو**
Doctor: Yes, certain preventions can save us from this infectious disease.
 ڈاکٹر: یقیناً خاص احتیاطی تدابیر ہمیں اس دہائی مرض سے بچا سکتی ہیں۔
 ڈاکٹر: ہاں، سرٹین پری وین ہنز کین سیو اس فرام اس سے ہمیں بچا سکتی ہیں۔

Use	of	insecticides	and	repellents	is	quite	essential
یوز	آف	ان سیکٹی سائڈز	اینڈ	ری پیلینٹس	از	کوائٹ	ایسینٹشل
استعمال	کا	کیڑے	اور	مارادویات	ہے	بہت	ضروری

to	protect	ourselves	from	the mosquito	bite.
نو	پروٹیکٹ	ادور سیلوز	فرام	دی مسکیو	بائٹ
	بچا سکیں	تاکہ ہم خود کو	سے	مچھر	کے کاٹنے

English / **اردو**
Use of insecticides and repellents is quite essential to protect ourselves from the mosquito bite.
 یوز آف ان سیکٹی سائڈز اینڈ ری پیلینٹس از کوائٹ ایسینٹشل ٹو پروٹیکٹ اوسیلوز فرام دی مسکیو بائٹ۔
 بڑے مارادویات کا استعمال اور پرے بہت ضروری ہے تاکہ ہم خود کو مچھر کے کاٹنے سے بچا سکیں۔

Do not	let	water	stand	in	flower	pots	and	in	the lawn	of	your	house.
ڈونٹ	لیٹ	واٹر	سٹینڈ	ان	فلاور	پاٹس	اینڈ	ان	دی لان	آف	یور	ہاؤس
	رہنے دیں	پانی	کھڑا کریں	میں	پھولوں	کے گلوں	اور	میں	صحن میں بھی	کے	اپنے	گھروں

English / **اردو**
Do not let water stand in flower pots and in the lawn of your house.
 ڈونٹ لیٹ واٹر سٹینڈ ان فلاور پاٹس اینڈ ان دی لان آف یور ہاؤس۔
 پھولوں کے گلوں میں پانی نہ رہنے دیں اور اپنے گھروں کے باغ میں بھی پانی مت کھڑا ہونے دیں۔

Avoid	throwing	litter,	rubbish	in	the open.
اوائڈ	تھرونگ	لیٹر	رابش	ان	دی اوپن
احتیاط کریں	پھینکنے سے	کوڑا کرکٹ	گندگی	پر	کھلی جگہ

English / **اردو**
Avoid throwing litter, rubbish in the open.
 اوائڈ تھرونگ لیٹر رابش ان دی اوپن۔
 کھلی جگہ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے احتیاط کریں۔

Regularly	spray	your	house.
ریگولری	سپری	یور	ہاؤس
روزانہ	سپری کریں	اپنے	گھر میں

English / **اردو**
Regularly spray your house.
 ریگولری اسپری یور ہاؤس۔
 اپنے گھر میں روزانہ سپری کریں۔

If	needed,	use	mosquito	net.
اِف	نیڈڈ،	یوز	موسکیو	نیٹ
اگر	ضرورت پڑے	استعمال کریں	مچھر	دالی

English / **اردو**
If needed, use mosquito net.
 اِف نیڈڈ، یوز موسکیو نیٹ۔
 اگر ضرورت پڑے تو مچھر دالی استعمال کریں۔

Ali:	Dr. Sahib,	thank you	for	giving	such	useful	information.
علی:	ڈاکٹر صاحب	تھینک یو	فار	گیونگ	سچ	یوزفل	انفارمیشن
علی:	ڈاکٹر صاحب	آپ کا شکریہ	کے لیے	دینے	اس طرح	کی مفید	معلومات

English اردو
 All: Dr. Sahib, thank you for giving such useful information. علی: ڈاکٹر صاحب اس طرح کی مفید معلومات دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔
 تلفظ

I	will	share	it	with	all	my	friends.
آئی	ول	شیر	اٹ	ود	آل	مائی	فرینڈز
میں	گا	بتاؤں	یہ	کو بھی	تمام	اپنے	دوستوں

English اردو
 I will share it with all my friends. میں اپنے تمام دوستوں کو بھی یہ بتاؤں گا۔
 تلفظ

Doctor:	Now	take	the medicine	regularly.
ڈاکٹر:	ناؤ	ٹیک	دی میڈیسن	ریگولرلی
ڈاکٹر:	اب	لینا	سے دوائی	باقاعدگی

English اردو
 Doctor: Now take the medicine regularly. ڈاکٹر: نائو ٹیک دی میڈیسن ریگولرلی۔
 تلفظ

I	will	check	you	again	after	a	week.
آئی	ول	چیک	یو	اگین	آفٹر	آ	ویک
میں	کروں گا	معائنہ	آپ	کو پھر تمہارا	بعد	ایک	ہفتے

English اردو
 I will check you again after a week. میں ایک ہفتے بعد آپ کا معائنہ کروں گا۔
 تلفظ

Ali:	Thank you	Dr.Sahib.
علی:	تھینک یو	ڈاکٹر صاحب
علی:	آپ کا شکریہ	ڈاکٹر صاحب

English اردو
 All: Thank you Dr.Sahib. علی: ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔
 تلفظ

Doctor:	OK.
ڈاکٹر:	اوکے
ڈاکٹر:	ٹھیک ہے۔

English اردو
 Doctor: OK. ڈاکٹر: اوکے۔
 تلفظ

(Ali	leaves	doctor's	room	and	the next	patient	enters).
علی	لیوز	ڈاکٹر	روم	اینڈ	دی نیکسٹ	پیشنٹ	اینٹرز)
علی	کھٹا ہے	ڈاکٹر	کمرے	اور	دوسرا	مریض	(داخل ہوتا ہے)

English اردو
 (Ali leaves doctor's room and the next patient enters). (علی لیوز ڈاکٹر روم اینڈ دی نیکسٹ پیشنٹ اینٹرز)۔
 تلفظ

Vocabulary

ذخیرہ الفاظ

A Encircle the word which does not belong to the group.

الفاظ پر دائرہ لگائیں جو گروپ سے تعلق نہیں رکھتے۔

1. papaya, okra, fig, **(lime)**
2. throat, chest, **(room)**, belly
3. morning, evening, night, **(Monday)**
4. doctor, **(patient)**, carpenter, engineer
5. rhombus, parallelogram, trapezium, **(circle)**

B Use the following words in sentences.

درج ذیل کو جملوں میں استعمال کریں۔

prevention, protect, relief, rubbish, disease

Words	Sentences
prevention تحفظ	Prevention is better than cure.
protect بچانا	We can protect ourselves from disease.
relief آرام	Medicine gives us Relief.
rubbish گندگی	Don't throw rubbish in open.
disease بیماری	Dengue is an infectious disease.

C Consult a thesaurus and find out the antonyms of the following words.

لغت میں دیکھ کر درج ذیل کے متضاد لکھیں۔

usually, complete, regularly, few

Words الفاظ	Antonyms متضاد
usually عام طور پر	rarely بھٹی کھنار
complete مکمل	incomplete نامکمل
regularly باقاعدہ	irregularly بے قاعدہ
few چند	many بہت سے

D Find out the words from the lesson which have similar meaning as in column 'A'. Write them in column 'B'.

سبق سے ایسے الفاظ تلاش کریں جو کہ کالم 'A' کے الفاظ کے مترادف ہوں ان کو کالم 'B' میں لکھیں۔

A	B
feeling ill	suffering from

thoroughly	completely
indications	symptoms
feeling cold	chill
daily basis	regularly
to prevent from some happening	prevention

Reading for Comprehension پڑھ کر سمجھنا

A Answer the following questions.

1. What is Dengue fever?
 ذہنی بخار کیا ہے؟
 Ans. Dengue fever is an infectious disease spread by mosquitoes.

2. What are the symptoms of Dengue fever?
 ذہنی بخار کی علامات کیا ہیں؟
 Ans. The symptoms of Dengue fever are high fever, headache, pain behind the eyes, aching of muscles and joints.

3. What happens if the patient does not take precautions?
 اگر مریض احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟
 Ans. It could be very dangerous.

4. How can we protect ourselves from Dengue fever?
 ہم اپنے آپ کو ذہنی بخار سے کیسے بچا سکتے ہیں؟
 Ans. If we take measures, we can protect ourselves.

5. What means can be used to create awareness about Dengue fever?
 ذہنی بخار کی آگاہی پیدا کرنے کے لیے کیا ذرائع استعمال کئے جاسکتے ہیں؟
 Ans. We should hold debates and conversation about this.

B Tick (✓) the right choice.

1. The Doctor advises Ali to take rest for

- (a) one week (b) two weeks
 (c) three weeks (d) four weeks

2. The patient suffers from

- (a) cough (b) flu
 (c) high fever (d) diarrhoea

3. Dengue is also known as _____.
- (a) yellow fever (b) congo fever
(c) break bone fever (d) viral fever
4. Use of insecticides and repellents is _____ to avoid Dengue fever.
- (a) optional (b) desirable
(c) not required (d) essential
5. All wanted to give this information to his _____.
- (a) friends (b) relatives
(c) parents (d) neighbours

Grammar قواعد

Modal Verbs (Modals)
نمونہ افعال

Modal verbs or modals are those helping verbs which help to express the mode or manner in which the action is done. The modal verbs "can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to and need to" modify the meaning of the main verb.

They are used before ordinary verbs and express meanings such as permission, possibility, ability, inability, request, prayer, certainty, prohibition, negation and habit.

نمونہ فعل وہ فعل ہے جو کسی انداز یا ادب کے اظہار کے لیے مدد دیتے ہیں جس میں کام کیا گیا ہو۔ نمونہ فعل: can, could, may, might, will
یہ ترتیبی فعل سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور مطلب ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ اجازت، ممکن، صلاحیت، نالائق، التجا، دُعا، عبادت، یقین، احتیاط، عادت وغیر۔

Modals	Functions	Examples
can سکتا	ability صلاحیت inability نالائق	They can attempt the paper with in three hours. We can't give extra time.
could سکتا	permission اجازت request درخواست	Could I borrow your camera? Could you explain it to me again?
may سکتا	prayer دعا possibility ممکن	May you live happily and long! Ali is late. He may have missed the lecture.

might سکتا	possibility ممکن suggestion تجویز	You might find Saima in the party but I doubt it. You might go to England for training.
must ضرور	necessity ضرور prohibition	We must leave for the Railway Station. Students must not litter the park.
will گا	habit عادت request التجا	She will talk about nothing but films. Will you lend me your bicycle?
would گا	desire خواہش request التجا	I wish you would not chatter so much. Would you give me a pen, please.
shall گا	suggestion تجویز promise وعدہ	Where shall we go? You shall have a holiday tomorrow.
ought to ضرور	obligation فرض suggestion تجویز	Children ought to help their parents as much as possible. This is really a good movie; you ought to watch it.
should چاہیے	suggestion تجویز suggestion تجویز	We should abide by the traffic rules. I think we should take precaution, against Dengue fever.

A Punctuate the following paragraph.

درج ذیل میں رسوا دقاف لکھیں۔

A terrible earthquake hit Pakistan on 8th October 2005 at 08 51 am. It badly affected the northern areas of Pakistan and Azad Kashmir hundreds of thousands of buildings and houses collapsed or suffered enormous damage children were the worst sufferers as it was a normal school day most were at schools when the earthquake struck many were buried under collapsed school buildings.

Ans. A terrible earthquake hit Pakistan on 8th October 2005 at 08. 51 a.m. It badly affected

the Northern areas of Pakistan and Azad Kashmir. Hundreds of thousands of buildings and houses collapsed or suffered enormous damage children were the worst sufferers as it was a normal school day. Most were at schools when the earthquake struck. Many were buried under collapsed school buildings.

B Use appropriate modal verbs given in brackets to fill to the blanks.


مناسب نمونہ فعل کی مدد سے درج ذیل خالی جگہ کو پُر کریں۔

No.	Statement	Word
1.	His opinion <u>might</u> be true.	could / might
2.	The girl <u>can</u> write an essay.	can / may
3.	You <u>must</u> attend the class regularly.	must / may
4.	We <u>ought to</u> to work for our country.	use to / ought to
5.	You <u>should</u> work hard to attain good marks.	should / could
6.	<u>Could</u> you show me the way to the airport?	would / could
7.	You <u>should</u> be punished for this.	shall / should
8.	<u>Would</u> you like another cup of tea?	should / would

لکھنے کی مہارتیں Writing Skills

Write a composition on 'A Visit to a Hospital'. Take help from the following flow chart. Follow the conventions as Introductory paragraph, Body paragraph, Concluding paragraph.

ترجمہ: مندرجہ ذیل خاکے کی مدد سے A Visit to a Hospital پر ایک مضمون لکھیں جس میں تعارفی پیرا گراف، مضمون کا درمیانی حصہ اور نتیجہ بھی لکھیں۔



A visit to Hospital

Last Saturday my mother suffered from high fever and severe headache. She was crying with pain. I could not bear that and decided to take her to hospital. There is a Government hospital near my house. We reached there in half an hour. I took my mother into emergency ward. The doctor immediately checked her, they gave her first aid. She had high fever due to cold. After taking medicines and injection, she felt relax and easy. There were many kind of patients. One of them was dengue patient with the same symptoms as my mother had. First of all, I was afraid and suspected her of dengue too, but the doctors assured me that she has only fever and headache due to cold. I thanked Allah Almighty. The doctor gave me some medicines. They advised me to give my mother light diet as rice, toast, etc. Then they discharged my mother after recovery. I phoned to my brother and sister about mothers recovery. All were very happy.

زبانی گفتگو کی مہارتیں Oral Communication Skills

Beenish: How are you Shehla?

Shehla: I was not well, but now I have recovered.

Beenish: Oh, so sad! What happened?

Shehla: I had Dengue fever.

Beenish: Oh! That's why you could not come to school for two weeks.

Shehla: Yes, the Doctor advised me to take complete rest.

Beenish: What is the cause of Dengue fever?

Shehla: Mosquitoes are the main cause. We must keep the environment clean.

بینش: شہلا تم کیسی ہو؟

شہلا: میں ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔

بینش: بہت افسوس ہوا۔ کیا ہوا تھا؟

شہلا: مجھے ڈنگوی بخار ہو گیا تھا۔

بینش: اس وجہ سے آپ دو ہفتے کے لیے سکول نہیں آئی تھی۔

شہلا: جی، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ دو ہفتے مکمل آرام کروں۔

بینش: ڈنگوی بخار کے اسباب کیا ہیں؟

شہلا: مچھر اہم وجہ ہیں۔ ہمیں ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔

Beenish: Will it help?
Shehla: Yes, that's what the Doctor said.
Beenish: Thanks for sharing such an information. Let's go.
Shehla: Ok. Goodbye!
Beenish: Goodbye!

بینش: کیا اس سے مدد ملے گی؟
شہلا: جی ہاں، ڈاکٹر نے یہی کہا تھا۔
بینش: اس طرح کی معلومات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔
شہلا: خدا حافظ
بینش: خدا حافظ

monitored مونیٹورڈ	نظارت	watch and check over a period of time
preventive پریوینٹیو	تعمیر	try to stop something that causes problem, difficulties
protect پروٹیکٹ	تعمیر	make sure that something or someone is not harmed, injured
repellents ریپیلنٹس	باجوڑھواری	very unpleasant, causing strong dislike
rubbish ریش	گندگی	things thrown away, because you don't need them
relief ریلیف	آرام	the act of removing or reducing pain
symptoms سمٹمز	علامات	a change in your body or mind that shows that you are not healthy

Group Activity

اجتماعی سرگرمی

Divide the class in groups and exchange information on Dengue fever.

جماعت کو گروپ کی شکل میں تقسیم کریں اور ڈینگی بخار پر معلومات کا تبادلہ کریں۔

Prepare a flyer/poster showing symptoms of Dengue fever and preventions.

ڈینگی بخار کی علامات اور بچاؤ پر پوسٹر بنائیں۔

Glossary

اصطلاحات

ache ایک	درد	a continuous feeling of pain in a part of a body.
avoid اوائڈ	بچنا	prevent something bad from happening
chill چیل	سٹنڈ لگنا	feeling of beings cold
dengue ڈینگی	ڈینگی	a disease caused by a virus carried by mosquitoes that causes fever and sever pain in joints
fluids فلوئڈ	مایع	liquid, substance that flows
infectious ان ایکٹو	دہائی	a disease that can easily be transferred to others
Insecticides ان ایکٹیو سائڈز	جراثیم کش	chemical used for killing insects
litter لیٹر	گندگی	rubbish, garbage
measures میچرز	اقدامات	action taken to achieve an aim

Test Preparation

امتیحانی تیاری

☆ Read the given paragraph and answer the question no. 1 - 5.

Doctor: Ali, right now, there is an early stage of the disease. You will recover in about two weeks. Take complete rest and the medicine regularly that I am prescribing besides to take complete bed rest. Take lots of fluids like juices, soups, tea etc. Your blood pressure also should be regularly mentioned.

- Take lot of _____.
(a) apple (b) mangoes
(c) fluids (d) medicine.
- You will be recover in _____ weeks.
(a) one (b) two (c) three (d) four
- There is an _____ stage.
(a) early (b) last (c) middle (d) danger
- Take complete _____.
(a) water (b) medicine (c) sleep (d) bed rest
- We put a _____ at the end of an interrogative sentence.
(a) full stop (b) question mark
(c) comma (d) exclamation mark
- Every line of poetry always starts with a _____.
(a) comma (b) inverted commas
(c) semi colon (d) capital letter
- Every new sentence always starts with a _____.
(a) comma (b) full stop
(c) question mark (d) capital letter

8. We use _____ before an explanation in a sentence.

- (a) sign of exclamation (b) comma
(c) semi colon (d) colon

9. The sentence with correct punctuation is:

- (a) She likes her new bag.
(b) She likes her new Bag.
(c) She likes her new bag.
(d) She likes Her new bag.

10. The sentence with correct capital letters is:

- (a) The Faisal Mosque is in Islamabad.
(b) the Faisal Mosque is in Islamabad.
(c) The Faisal mosque is in Islamabad.
(d) The Faisal Mosque is in islamabad.

11. While writing the name of a country:

- (a) Start with a small letter.
(b) Starts with a capital letter.
(c) Stop with a capital letter.
(d) Stop with a small letter.

12. Always start a sentence with _____.

- (a) question Mark (b) capital letter
(c) comma (d) small letter

13. A comma is used:

- (a) When the names of three or more things come together.
(b) At the end of every telling/simple statement.
(c) At the end of every question sentence.
(d) When you start a sentence.

14. At the end of every question sentence:

- (a) A full stop is put. (b) A comma is put.
(c) A question mark is put
(d) Stop with a capital letter

15. I _____ swim across the river.

- (a) can (b) May (c) Might (d) Ought

16. He _____ work this sum.

- (a) should (b) might (c) could (d) can

17. _____ you lift this box?

- (a) Ought (b) Can (c) May (d) Should

18. It _____ rain tomorrow.

- (a) may (b) can (c) should (d) would

19. He _____ be at home.

- (a) can (b) must (c) may (d) ought

20. _____ this be true?

- (a) Should (b) Can (c) May (d) Might

21. It _____ not be true.

- (a) may (b) might (c) ought (d) can

22. _____ you live happily and long!

- (a) Might (b) May (c) Can (d) Could

23. _____ success attend you!

- (a) May (b) Might (c) Ought (d) Can

24. I _____ swim across the river when I was young.

- (a) should (b) can (c) might (d) could

25. He said "I _____ go."

- (a) may (b) might (c) may (d) should

26. I thought he _____ be at home.

- (a) ought (b) can (c) may (d) might

27. She wondered whether it _____ be true.

- (a) can (b) could (c) ought (d) should

28. I _____ attend the party.

- (a) ought (b) may (c) can (d) could

29. It _____ rain tomorrow.

- (a) might (b) may (c) can (d) must

30. _____ you pass me the salt?

- (a) Could (b) May (c) Must (d) Might

31. You _____ pay a little more attention to your appearance.

- (a) could (b) might (c) can (d) may

32. He is not there. Where _____ he have gone?

- (a) could (b) might (c) should (d) can

33. You _____ have accepted the offer.

- (a) may (b) could (c) can (d) ought

34. Fatima _____ have gone with Samman.

- (a) could (b) may/might (c) must (d) ought

35. Why _____ you drive so carelessly?

You _____ have run into the lamp-post

- (a) can (b) should (c) may (d) might

36. We _____ obey the laws.

- (a) could (b) should (c) can (d) ought

37. You _____ keep your promise.

- (a) should (b) could (c) can (d) might

38. Children _____ obey their parents.

- (a) can (b) should (c) could (d) might